

Crash Course  
for New Learners

# المقرر الدراسي

مبادئ النحو والصرف لفهم معاني القرآن والسنة

## TEXT BOOK

for Basic Qur'anic Arabic Grammar

Concept by:

**Shaikh Arshad Basheer Madani**

MBA, Pursuing Ph.D From Switzerland

Founder & Director: AskIslamPedia.com



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جملة الحقوق محفوظة لدى مؤسسة الطبع

© All Rights Reserved with Publisher

**AskIslamPedia.com - Academic Wing**

Under the Supervision of

**Shaikh Arshad Basheer Umeri Madani**

Hafiz, Aalim, MBA, Pursuing Ph.D from Switzerland,

Founder & Director of AskIslamPedia.com

Text Book

**المقرر الدراسى**

Edition 2017

Published by

**ABM**

mansoor.dawah@gmail.com | www.AskIslamPedia.com | 0091- 93909 93901

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التمهيد

# سبق

04 الاسم واقسامه

Al-Ism wa Aqsamuhu  
Noun and its types

01 حروف الهجاء

Huroof-ul-Hijaa  
Alphabet

05 الفعل واقسامه

Al-Fel wa Aqsamuhu  
Verb and its types

02 الحركات


Al-Harakaat  
Vowel signs

06 الحرف واقسامه

Al-Harf wa Aqsamuhu  
Particles and its types

03 الكلمة واقسامها

Al-Kalimah wa Aqsamuha  
Word and its types



Alphabet

Huroof-ul-Hijaa

حروف الهجاء





Alphabet with  
examples

Hurooful Hijaa  
m'al amsilah

حروف الهجاء مع الامثلة

طِطْفُلٌ	طا	Taa	ط
ظُلْمٌ	ظا	Zaa	ظ
عَبْدٌ	عين	Ayn	ع
غَيْثٌ	غين	Ghaen	غ
فَيْلٌ	فا	Faa	ف
قَمَرٌ	قاف	Qaaf	ق
كِتَابٌ	كاف	Kaaf	ك
لَيْلٌ	لام	Laam	ل
مَسْجِدٌ	ميم	Meem	م
نَجْمٌ	نون	Noon	ن
هَالٌ	ها	Haa	ه
وَجْهٌ	واو	Waa	و
أَرْضٌ	همزه	Hamzah	ء
يَوْمٌ	يا	Yaa	ى




الله	الف	Alif	ا
بَقْرَةٌ	با	Baa	ب
تَوْبَةٌ	تا	Taa	ت
ثَوَابٌ	ثا	Saa	ث
جَنَّةٌ	جيم	Jeem	ج
حَجٌّ	حا	Haa	ح
خَشِيَّةٌ	خا	Khaa	خ
دُعَاءٌ	دال	Daal	د
ذِكْرٌ	ذال	Zaal	ذ
رَجُلٌ	را	Raa	ر
زَيْتُونٌ	زا	Zaa	ز
سُنَّةٌ	سين	Seen	س
شَجَرَةٌ	شين	Sheen	ش
صَبْرٌ	صاد	Saad	ص
ضَوْءٌ	ضاد	Zaad	ض



# Vowel Signs

# Al-Harakaat

# الحركات





Word

Kalimah

کلمہ

کلمہ کی تعریف: بامعنی مفرد لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔

Kalima ki tareef: Baa-maana mufrad lafz ko kalima kehte hain

A meaningful individual word is called Kalimah




There are three types of word - Kalime ki teen qisme hain - کلمہ کی تین قسمیں ہیں -

3 حرف  
Harf  
Particle

2 فعل  
Fel  
Verb

1 اسم  
Ism  
Noun

Useful for teachers



# الاسم

## AL-ISM - NOUN

1

مثال

الاشياء (چیز)			المكان (جگہ)		الحيوانات (جانور)			الانسان			
Things			Place		Animals			Person			
Pen	قلم	Qalam	قَلَمٌ	Makkah	مَكَّةُ	Camel	اونٹ	Al Jamal	أَجَلٌ	Muhammad	مُحَمَّدٌ
Book	کتاب	Kitaab	كِتَابٌ	Madinah	مَدِينَةٌ	Horse	گھوڑا	Al Fars	الْفَرَسُ	Abdullah	عَبْدُ اللَّهِ
Paper	ورق	Waraq	وَرَقٌ	Hyderabad	حَيْدَرَابَادُ	Donkey	گدھا	Al Himaar	الْحِمَارُ	Abdur Rahman	عَبْدُ الرَّحْمَنِ
Sock	جراب	Jaurab	جَوْرَبٌ	Egypt	مِصْرُ	Whale	مچھلی (دیل)	Al Hoot	الْحَوْتُ	Umar	عُمَرُ
Star	تارہ	Kaukab	كَوْكَبٌ	Baghdaad	بَغْدَادُ	Elephant	ہاتھی	Al Feel	الْفَيْلُ	Usmaan	عُثْمَانُ
Cap	ٹوپی	Qalanswah	قَلَنْسَوَةٌ	Pakistan	بَاكِسْتَانُ	Snake	سانپ	Al Hayyah	الْحَيَّةُ	Khadeejah	خَدِيجَةُ
Meat	گوشت	Lahm	لَحْمٌ	India	الْهِنْدُ	Pig	سور	Al Khinzeer	الْخِنْزِيرُ	Aaeshah	عَائِشَةُ
Bed	پینگ	Sareer	سَرِيرٌ	Arab	الْعَرَبُ	Monkey	بندر	Al Qirdah	الْقِرْدَةُ	Faatimah	فَاطِمَةُ
Knife	چاقو	Sikkeen	سِكِّينٌ	Taaef	الطَّائِفُ	Goat	بکرا	Al Ma'z	الْمَعزُ	Aasiyah	آسِيَّةُ
Toothpick	مسواک	Miswaak	مِسْوَاكٌ	Syria	الشَّامُ	Cow	گائے	Al Baqarah	الْبَقَرَةُ	Maryam	مَرْيَمُ

مزید اسماء کے لیے Vocabulary Book ملاحظہ فرمائیں۔

Mazeed Asma ke liye Vocabulary book Mulahaza farmaein

For more nouns refer the vocabulary book

تعریف: اسم وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، جانور، جگہ یا چیز کا نام بتائے اور اس میں تینوں زمانے (ماضی، حال اور مستقبل) نہ پائے جائیں۔  
Tareef: ism wo kalimah hai jo kisi insaan, janwar, jagah ya cheez ka naam batae aur us me teeno zamane (maazi, haal aur mustaqbil) na paae jaein

Definition: A Noun is the name of a person, animal, place or thing without any tense (Past, present and future) and any word with a sensible meaning without tense.



# الفعل

## AL-FEL - VERB

مثال:

English	اردو	Roman	صرفِ صغیر	فعل	Sl.No.
Understood	سمجھا	Aqala	عَقَلَ، يَعْقِلُ، عَقَلًا، عَاقِلٌ، إِعْقِلْ، لَا تَعْقِلْ	عَقَلَ	1
Sent	بھیجا	B'asa	بَعَثَ، يَبْعَثُ، بَعَثًا، بَاعِثْ، إِبْعَثْ، لَا تَبْعَثْ	بَعَثَ	2
Moved	دور کیا	B'auda	بَعَدَ، يَبْعُدُ، بَعْدًا، بَاعِدْ، اُبْعُدْ، لَا تَبْعُدْ	بَعَدَ	3
Remembered	ذکر کیا	Zakara	ذَكَرَ، يَذْكُرُ، ذِكْرًا، ذَاكِرٌ، اذْكُرْ، لَا تَذْكُرْ	ذَكَرَ	4
went	گیا	Zahaba	ذَهَبَ، يَذْهَبُ، ذَهَابًا، ذَاهِبٌ، اذْهَبْ، لَا تَذْهَبْ	ذَهَبَ	5
Rebelled or transgressed	نافرمانی کیا	Fasaqa	فَسَقَ، يَفْسُقُ، فَسُوقًا، فَاسِقٌ، افسُقْ، لَا تَفْسُقْ	فَسَقَ	6
Forgiven	معاف کیا	Ghafara	غَفَرَ، يَغْفِرُ، غَفْرًا، غَافِرٌ، اِغْفِرْ، لَا تَغْفِرْ	غَفَرَ	7
Over powered	غالب ہوا	Ghalaba	غَلَبَ، يَغْلِبُ، غَلْبًا، غَالِبٌ، اِغْلِبْ، لَا تَغْلِبْ	غَلَبَ	8

تعریف: فعل وہ کلمہ ہے جو کسی کام کے ہونے یا کرنے کو بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔  
TAREEF : fel wo kalimah hai jo kisi kaam ke hone ya karne ko batae aur isme teeno zamaano me se koi ek zamana paya jaae.

DEFINITION : A word that represents an action or a state of being in any tenses (past, present and future)



تصريف فعل المضارع			
3rd Person Male		غائب مذکر	
He is doing / He will do	وہ کرتا ہے یا کرے گا	Yaf-a-lu	يَفْعَلُ
They (both) are doing / they will do	وہ دونوں کرتے ہیں یا کریں گے	Yaf-a-laa-ni	يَفْعَلَانِ
They (all) are doing / They will do	وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے	Yaf-a-loona	يَفْعَلُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is doing/ She will do	وہ کرتی ہے یا کرے گی	Taf-a-lu	تَفْعَلُ
They (both) are doing / they will do	وہ دونوں کرتیں ہیں یا کریں گی	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
They (all) are doing / They will do	وہ سب کرتیں ہیں یا کریں گی	Yaf-al-na	يَفْعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are doing / You will do	تم کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-lu	تَفْعَلُ
You (both) are doing / You will do	تم دونوں کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
You (all) are doing / You will do	تم سب کرتے ہو یا کرو گے	Taf-a-loona	تَفْعَلُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are doing / You will do	تم کرتی ہو یا کرو گی	Taf-a-leena	تَفْعَلِينَ
You (both) are doing / You will do	تم دونوں کرتی ہو یا کرو گی	Taf-a-laani	تَفْعَلَانِ
You (all) are doing / You will do	تم سب کرتی ہو یا کرو گی	Taf-al-na	تَفْعَلْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I am doing / I will do	میں کرتا ہوں یا کروں گا	Af-a-lu	أَفْعَلُ
We are doing / We will do	ہم کرتے ہیں یا کریں گے	Naf-a-lu	نَفْعَلُ



تصريف فعل الماضي			
3rd Person Male		غائب مذکر	
He did	اس نے کیا	Fa-a-la	فَعَلَ
they (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-laa	فَعَلَا
they (all) did	ان سب نے کیا	Fa-a-loo	فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She did	اس نے کیا	Fa-a-lat	فَعَلَتْ
they (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-la-taa	فَعَلَتَا
they (all) did	ان سب نے کیا	Fa-al-na	فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You did	تم نے کیا	Fa-al-ta	فَعَلْتَ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tu-maa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tum	فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
you did	تم نے کیا	Fa-al-ti	فَعَلْتِ
you (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tumaa	فَعَلْتُمَا
you (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tunna	فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I did	میں نے کیا	Fa-al-tu	فَعَلْتُ
We did	ہم نے کیا	Fa-al-naa	فَعَلْنَا

## تصريف فعل الامر

2nd Person Male		حاضر مذکر	
You do	تم کرو	If-al	اِفْعَلْ
You do (both)	تم دونوں کرو	If-a-laa	اِفْعَلَا
You do (all)	تم سب کرو	If-a-loo	اِفْعَلُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You do	تم کرو	If-a-lee	اِفْعَلِيْ
You do (both)	تم دونوں کرو	If-a-laa	اِفْعَلَا
You do (all)	تم سب کرو	If-al-na	اِفْعَلْنَ

## تصريف فعل النهي

2nd Person Male		حاضر مذکر	
You don't do	تم مت کرو	Laa-taf-al	لَا تَفْعَلْ
You don't do (both)	تم دونوں مت کرو	Laa-taf-a-laa	لَا تَفْعَلَا
You don't do (all)	تم سب مت کرو	Laa-taf-aloo	لَا تَفْعَلُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You don't do	تم مت کرو	Laa-taf-alee	لَا تَفْعَلِيْ
You don't do (both)	تم دونوں مت کرو	Laa-taf-a-laa	لَا تَفْعَلَا
You don't do (all)	تم سب مت کرو	Laa-taf-alna	لَا تَفْعَلْنَ



# الحرف

## AL-HARF - PARTICLE

مثال: اِلِي (تک)، مِنْ (سے)۔

تعریف: حرف وہ کلمہ ہے جو اسم یا فعل کے ساتھ مل کر اپنا معنی بتائے۔

Misaal: Ila (Tak), Min(se)

Tareef: Harf wo kalima hai jo Ism ya Fel ke saath milkar apna maana batae.

Introduction: A particle is a word which gives meaning when it combines with any noun or verb.

اسم، فعل اور حرف کی آسان مثال "آمَنْتُ بِاللّٰهِ" میں اللہ پر ایمان لے آیا۔  
(آمَنْتُ: فعل، باء: حرف اور اللہ: اسم ہے)



نوٹ: حروف عربی زبان میں کئی طرح کے ہیں، اس کی دو اہم قسمیں یہ ہیں: حروف جر، حروف عطف

NOTE: Huruf arabi zaban me kayee hain, unki doo qisme hain: Huruf-e-jarr, Huruf-e-Atf.

NOTE: There are many particles in Arabic language, two types of particles are: Harf Jar and Harf Atf (Preposition & Conjunction).

رب حاشا من عدا فی عن علی حتی الی  
اذا و فا اذا و فا

حروف جر: باء و تاء و کاف و لام و واو و منذ و مذ خلا  
حروف عطف: أما إما ثم او حتی ام



ENGLISH	اردو	ROMAN	مثالیں	حروف	Sl.No.
In/with	کے ساتھ	Baa	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - (سورة النمل : ۳۰)	بِ	۱
Swear	قسم	Taa	تَاللّٰهِ لَا كَيْدَنَّ اَصْنَامَكُمْ - (سورة الانبياء : ۵۷)	تَ	۲
Like/as	کی طرح، کے جیسا	Kaaf	مِثْلُ نُوْرِهِ كَمِشْكُوَةٍ - (سورة التور : ۳۵)	كَ	۳
For/to	کے لیے	Laam	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ - (سورة الفاتحه : ۱)	لِ	۴
Swear	قسم	Waaau	وَالْعَصْرِ - (سورة العصر : ۱)	وَ	۵
Since	جب سے	Munzu	مَا رَاَيْتَهُ مُنْذُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ	مُنْذُ	۶
Since	جب سے	Muz	مَا رَاَيْتَهُ مُذْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ	مُذْ	۷
Except	سوائے	Khalaa	جَاءَنِی الْقَوْمُ خَلَا زَيْدٍ	خَلَا	۸
Sometimes	کبھی کبھی	Rubba	رُبَّ مُبْلِغٍ اَوْعٰی مِنْ سَامِعٍ - (صحیح البخاری : ۱۷۴۱)	رُبَّ	۹
Except	سوائے	Haashaa	جَاءَنِی الْقَوْمُ حَاشَا زَيْدٍ	حَاشَا	۱۰
From/than	سے	Min	وَالَّذِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنزِلَ اِلَیْكَ وَمَا اُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُم یُوقِنُوْنَ - (سورة البقرة : ۴)	مِنْ	۱۱
Except	علاوہ	Adaa	جَاءَنِی الْقَوْمُ عَدَا زَيْدٍ	عَدَا	۱۲
In	میں	Fee	وَفِی السَّمَآءِ رِزْقُهُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ - (سورة الذاریات : ۲۲)	فِی	۱۳
From/about	سے	An	وَاتَّقُوا یَوْمًا لَا تَجْرِی نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَیْئًا - (سورة البقرة : ۴۸)	عَنْ	۱۴
On/upon	پر، اوپر	Alaa	وَلِلّٰهِ عَلَی النَّاسِ حُجُّ الْبَیْتِ مِنْ اَسْتَطَاعَ اِلَیْهِ سَبِیْلًا - (سورة ال عمران : ۹۷)	عَلٰی	۱۵
Until	تک	Hattaa	سلام ہی حتی مطلع الفجر - (سورة القدر : ۵)	حَتّٰی	۱۶
To/Towards	تک، کی طرف	Ilaa	اُدْعُ اِلٰی سَبِیْلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِی هِیْ اَحْسَنُ - (سورة النحل : ۱۲۵)	اِلٰی	۱۷

تعریف: حروفِ جر یعنی اپنے بعد میں آنے والے اسماء کو جر دینے والے۔

TAREEF: Huruf-e-jarr yani apne baad aane waale huruf ko jarr dene wale.

DEFINITION: Words which gives kasra to the Nouns / words following it.

ENGLISH	اردو	ROMAN	مثالیں	حروف	Sl.No.
And	اور	Waaau	إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. (الفاتحة: ٥)	وَ	١
Then	پس	Faa	أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ. (عبس: ٢١)	فَ	٢
Or	یا	Aw	أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ. (بقرہ: ١٩)	أَوْ	٣
Or	یا	Am	وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا. (النازعات: ٢٧)	أَمْ	٤
Then	جب	Izan	إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظُّلُمِينَ. (البقرہ: ١٤٥)	إِذَا	٥
So, then	پھر	Summa	كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. (بقرہ: ٢٨)	ثُمَّ	٦
Until	یہاں تک کہ	Hattaa	وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً. (بقرہ: ٥٥)	حَتَّىٰ	٧
Some	کچھ	Ammaa	قُلْ لِلَّذِكْرَيْنِ حَرَمٌ أَمْ الْإِنثَيْنِ أَمْ أَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْإِنثَيْنِ. (انعام: ١٤٣)	أَمْ	٨
Either	یا تو	Immaa	قَالُوا لِمُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ. (اعراف: ١١٥)	إِمَّا	٩

تعریف: حروفِ عطف وہ حروف ہیں جو دو جملوں کے درمیان تعلق اور جوڑ پیدا کرنے کے لئے آتے ہیں۔

TAREEF: Huruf-e-atf: wo huruf je doo jumloon ky darmiyan talluq awr jud paida karne k liye aate hain.

DEFINITION: A Conjunction is one which combines two sentences and relate them to each other.





English	اردو	Roman	قرآنی مثالیں	الاداة	S.no
Is/ did	کیا	Hal	هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ ﴿١﴾ العاشية	هَلْ	1
Is / did	کیا	A	أَلَمْ نُنشِخْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾ الانشراح أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى ﴿٢١﴾ النجم	الهمزة	2
why	کیوں	Limaaza		لِمَاذَا	3
O!	اے	Ayyu	يَا هَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿البقرة: ٢١﴾		4
when	کب	Mataa	وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨﴾ يونس	مَتَى	5
how	کیسے	Kaifa	وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ﴿١٠١﴾ آل عمران	كَيْفَ	6
Who ever	کون	Mann	وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾ فصلت وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴿١١٤﴾ البقرة	مَنْ	7
Who is	کون ہے	Mann zaa	مَنْ ذَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفُهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ الحديد	مَنْ ذَا	8
what	کیا	Maa	وَمَا أَدْرَاكَ مَا لِيَلَّةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ القدر	مَا	9
What	کیا	Maazaa	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ وَالَّذِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَإِنَّ السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾ البقرة	مَاذَا	10
How much /many	کتنے	Kam	قَالَ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ المؤمنون	كَمْ	11
where	کہاں	Ayina	وَيَوْمَ نَخْشِرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٢٢﴾ الانعام	آيِنَ	12
From where	کہاں سے	Annaa	قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لِكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٧﴾ آل عمران	أَنَّى	13
when	کب	ayyaana	أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ النحل	أَيَّانَ	14

أدوات الاستفهام: وہ حروف جو کسی نامعلوم چیز کی معرفت حاصل کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اور جن کے ذریعہ سوال کیا جاتا ہے۔

Adwat-e-istifhaam: wo huroof jo kisi naamalum cheez ki ma'rifat haasil karne ke liye astemaal hote hain aur jin ke zariye suwaal kiya jata hai.

Interrogative particle: It is used to ask a question and to know the unknown things.



# الباب الاول

اسم اور جملہ اسمیہ کی بحث





## المعرفة والنكرة

01

Ma'rifa, Nakirah - Definite Noun and Indefinite Noun

## المعرفة واقسامها

02

Ma'rifa ke Aqsaam - Types of Definite Noun


## الحروف الشمسية والحروف القمرية

03



Huroof e Shamsi aur Huroof e Qamari - Sun letters and Moon letters



Useful for teachers



نكرة	معرفة
Nakirah - Indefinite Noun	Ma'rifa / Definite Noun or Name
<p>مثال: رَجُلٌ (كُوْنِيْ آدْمِي)</p> <p>Misaal: (Koi Aadmi)</p> <p>Ex: Common man</p> <p>تعريف: نكرة وه اسم هه جو عام معني بتائے۔</p> <p>TA'REEF: Woh Ism hai jo aam ma'ne bataye.</p> <p>DEFINITION: A Noun which defines non particular thing.</p>	<p>مثال: الرَّجُلُ (خاص آدمي)</p> <p>Misaal: (Khaas Aadmi)</p> <p>Ex: Specific/ particular man</p> <p>تعريف: معرفه وه اسم هه جو ايك خاص چيز كو بتائے۔</p> <p>TA'REEF: Woh ism hai jo ek khas cheez ko bataye</p> <p>DEFINITION: A Noun which defines particular thing.</p>



Name	Alam	(1) العلم
Adding 'The or AL' to make it specific Noun	Ma'rif bilLaam (Alif laam)	(2) معرف باللام
Possessive phrase	Izaafat	(3) الاضافة
Pronoun (Plural: Pronouns)	Zameer (Jama' : Zamaaer)	(4) الضمير
Demonstrative Pronouns	Ism-ul- Isharah	(5) اسم الاشارة
Relative Pronouns	Ism-ul-Mausool	(6) اسم الموصول
Vocative	Munaada	(7) المنادى



(1) Name

(1) Alam

(1) العلم

ابراہیم ، إسماعیل ، یعقوب ، یوسف ، عثمان -  
Ibraheem, Ismaeel, Ya'qoob, Yusuf, Osman

خاص شخص:

Khaas shaks / Particular Person

مکة ، مدینة ، ہند ، مصر ، عراق -  
Makkah, Madinah, India, Egypt, Iraq

خاص شہر:

Khaas Shaheer / Particular city

الکتاب ، القلم ، المكتب ، السکین -  
Al-Kitaab, Al-Qalam, Al-Maktab, Al-Sikkeen  
The book, the pen, the school, the knife

خاص چیز:

Khaas Cheez / Particular thing

تعریف: علم وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص یا شہر یا چیز کا نام ہو۔

Ta' reef: Alam woh ism hai jo kisi khaas shaks ya shaheer ya cheez ka naam ho.

Definition: It is a noun which is the name of a particular person, place or thing.



(2) Adding 'The or AL' to  
make it specific Noun

(2) Ma'rif bilLaam  
(Alif laam)

(2) معرف باللام

معرفہ کی مثال Marifah ki Misaal Example of a specific noun	مکرہ کی مثال Nakirah ki Misaal Example of non specific noun
(ال + مدینة) = المَدِينَةُ	مَدِينَةُ
(ال + كِتَابٌ) = الْكِتَابُ	كِتَابٌ
(ال + رَجُلٌ) = الرَّجُلُ	رَجُلٌ
الرَّحْمَنُ، الرَّحِيمُ، الْحَمْدُ، الصِّرَاطُ، الْمُسْتَقِيمُ، الْكِتَابُ، الصَّلَاةُ، النَّاسُ، السُّفَهَاءُ، الضَّلَالَةُ، الْهُدَى۔	
تعریف: وہ اسم جس کے شروع میں "الف لام" آئے۔ Ta' reef: Woh ism jis ke shuru me "Alif Laam" aaye. Definition: Those names which starts with Alif Laam	



اضافت کی مثال

Izafat ki Misaal : Example of possessive Noun

قَلَمُ زَيْدٍ

(قَلَمٌ ← زَيْدٌ)

كِتَابُ اللَّهِ

(كِتَابٌ ← اللَّهُ)

حَرَمٌ مَكَّةَ

(حَرَمٌ ← مَكَّةَ)

تعریف: ایک اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کرنے کو اضافت کہتے ہیں پہلے اسم کو مضاف اور دوسرے اسم کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔

Ta'reef: Ek Ism ki nisbat dusre Ism ki taraf karne ko Izafat kehte hain, pahle Ism ko Muzaaf aur dusre Ism ko Muzaaf Ilaih kehte hain

Definition: The possessive Noun is a combination of two nouns in which the first noun is owned by or in possession of the second noun. First noun is called possessed, and second noun is called possessor.





(4) Pronoun  
(Plural: Pronouns)

(4) Zameer  
(Jama' : Zamaaer)

(4) الضمير

Zamaaer e Muttasilah Attached Pronouns		Misaal : Zamaaer e Munfasilah Example: Detached Pronouns		
مثالیں Examples	منفصل Attached	مثالیں Examples	منفصل Detached	شمار S.No.
لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ	هُ	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. (الإخلاص: ١)	هُوَ	١
فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ	هُمَا	إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ. (التوبة: ٤٠)	هُمَا	٢
يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُجِلَّ لَهُمْ	هُمْ	وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. (البقرة: ٤)	هُمْ	٣
لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا	هَا	قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحُجَّجِ. (البقرة: ١٨٩)	هِيَ	٤
تَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا	هُمَا		هُمَا	٥
فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ	هُنَّ	هُنَّ لِيَأْسَ لَكُمْ. (البقرة: ١٨٧)	هُنَّ	٦
إِيَّاكَ نَعْبُدُ	كَ	إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. (البقرة: ٣٢)	أَنْتَ	٧
إِنِّي لَكُمْ لَمِنَ النَّاصِحِينَ	كُما	أَنْتُمْ وَمَنِ اتَّبَعَكُمْ الْعَالِبُونَ. (القصص: ٣٥)	أَنْتُمْ	٨
أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ	كُمْ	فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. (المائدة: ٩١)	أَنْتُمْ	٩
يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ	كِ	أَنْتِ طَالِبَةٌ	أَنْتِ	١٠
أَبُوكُما مَهْنَدِسٌ	كُما	أَنْتُمْ طَالِبَتَانِ	أَنْتُمْ	١١
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ائْتَتَيْنِ	كُنَّ	أَنْتُنَّ طَالِبَاتٌ	أَنْتُنَّ	١٢
وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ	يِ	وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. (الانعام: ٧٩)	أَنَا	١٣
رَبَّنَا اللَّهُ	نَا	نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ (الصف: ١٤)	نَحْنُ	١٤

تعريف: ایسے الفاظ جو کسی نام کی جگہ پر استعمال کیے جائیں ان کو ضمیر کہا جاتا ہے۔

Ta'reef: Aise alfaaz jo kisi naam ki jagah par istemaal kiye jaaye inko Zameer (Pronoun) kaha jata hai.

Definition: A Pronoun is a word used as a substitute for a Noun.



(5) Demonstrative  
Pronouns

(5) Ism-ul-Isharah

(5) اسم الاشارة

مثالیں Examples	بعید Far Distance	مثالیں Examples	قریب Near	شمار S.No.
ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ	ذَلِكَ	هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ	هَذَا	۱
ذَانِكَ الْكِتَابَانِ	ذَانِكَ	هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ	هَذَانِ	۲
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ	أُولَئِكَ	قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ صِيفِي فَلَا تَفْضَحُونِ	هَؤُلَاءِ	۳
تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ	تِلْكَ	هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ	هَذِهِ	۴
تَانِكَ الْكُرَّاسَتَانِ	تَانِكَ	هَاتَانِ إِمْرَأَتَانِ	هَاتَانِ	۵
أُولَئِكَ النِّسَاءُ	أُولَئِكَ	هَؤُلَاءِ النِّسَاءُ	هَؤُلَاءِ	۶

تعریف: کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ کو اسماء اشارہ کہتے ہیں۔

Ta'reef: Kisi cheez ya shaks ki taraf Isharah karne ke liye istemaal hone wale alfaaz ko asmaa e  
Isharah kehte hai

Definition: Those words that are used to point at something are known as Demonstrative  
Pronouns.



مثالیں Examples	اسماء موصولہ	شمار S.No.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ. (الكهف: ١)	الَّذِي	١
وَالَّذِينَ يَأْتِيَنَهَا مِنْكُمْ. (النساء: ١٦)	الَّذِينَ	٢
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. (المعارج: ٢٣)	الَّذِينَ	٣
وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. (ال عمران: ١٣١)	الَّتِي	٤
الْإِمْرَأَاتِ اللَّاتِي تَنْظِفْنَ الْبَيْتَ.	اللَّاتِي	٥
وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. (النساء: ٢٣)	اللَّاتِي	٦
وَالَّذِي يَتَسَّنَّ مِنَ الْمَحِيضِ. (الطلاق: ٤)	الَّذِي	

تعریف: جو الفاظ جملہ پر داخل ہو کر کسی چیز کے مقصود کو واضح کر دیتے ہیں ان کو اسماء موصولہ کہتے ہیں۔

Ta'reef : Jo alfaaz jumle par dakhil hokar kisi cheez ke maqsood ko wazeh kardete hai inko asmaa e Mausula kehte hai.

Definition: A relative pronoun used to connect a phrase or clause to a noun or pronoun which highlights the details and gives complete sense. If it is used individually then it will not give complete sense.



مثال: يَا زَيْدُ ("زَيْدُ" اسم منادی اور "يَا" حرف نداء ہے)  
 Misaal : Yaa zaid ("Zaid" Ism Munada aur "Yaa" harf nidaa hai)  
 Example: Yaa Zaid (O Zaid)

منادی کی قرآنی مثالیں Munaada ki Qur'ani Misaalen Examples / Quranic examples of Vocative	شمار S.No.
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ (البقرة: ۲۱)	۱
قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ (البقرة: ۳۳)	۲
يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا (البقرة: ۴۰)	۳
قَالَ يَا مَرْيَمُ (ال عمران: ۳۷)	۴
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا (البقرة: ۱۰۴)	۵

تعریف: منادی وہ اسم ہے جو حرف نداء کے بعد آتا ہے اور جس میں متکلم مخاطب کی توجہ کا طالب ہوتا ہے۔

Ta'reef : Woh ism jis ke zariye bulaya jaaye.

Definition: Vocative noun is a noun which comes after a vocative particle and in which the speaker seeks the attention of the second person.



Sun Letters	Huroof-e-Shamsi	حروف شمسی
<p>مثال: الطامة، الثواب، الصادقين، الراكعين، التوابين، الضالين، الذاكرين، الناصحين، الدين، السائحون، الظالمين، الزجاجة، الشاكرين، اللهب۔</p>		
<p>تعريف: وہ لام جو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا اور اسکے بعد والا حرف مشدد ہوتا ہے۔</p>		
<p>Ta'reef : Woh laam jo likha jaata hai laikin padha nahi jaata aur iske baad wala Harf mu-shaddad hota hai.</p>		
<p>Definition: Those Letters in which the letter Laam is written but not read and the letter after that is Mushaddad.</p>		
<p>ان کی تعداد ۱۴ ہے۔ جن کا مجموعہ یہ شعر ہے:</p> <p>طب ثم صل رحما تفض ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفاً للكرم</p> <p>1-ط. 2-ث. 3-ص. 4-ر. 5-ت. 6-ض. 7-ذ. 8-ن. 9-د. 10-س. 11-ظ. 12-ز. 13-ش. 14-ل</p>		
Moon Letters	Huroof-e-Qamri	حروف قمری
<p>مثال: الأول، البر، الغني، الحكيم، الجنة، الكبير، الودود، الخبير، الفتاح، العليم، القيوم، اليقين، الملك، الهادي.</p>		
<p>تعريف: وہ لام جو لکھا جاتا ہے اور پڑھا جاتا اور اسکے بعد والا حرف مشدد نہیں ہوتا ہے۔</p>		
<p>Ta'reef : Woh laam jo likha jaata hai aur padha jaata aur iske baad wala Harf mushaddad nahi hota hai.</p>		
<p>Definition: Those Letters in which the letter Laam is written and read. The letter after that is not Mushaddad.</p>		
<p>ان کی تعداد ۱۴ ہے جن کا مجموعہ ہے:</p> <p>(ابغ حجك وخف عقيمه)</p>		





المذكر والمؤنث 01  
Muzakkar aur mu-annas  
Masculine and Feminine Gender



علامات التأنيث

Alamaat-ut-Taanees

Signs of Feminine Nouns

اء		ى		ة	
مؤنث	مذكر	مؤنث	مذكر	مؤنث	مذكر
صَفْرَاءُ	أَصْفَرُ	كُبْرَى	أَكْبَرُ	صَادِقَةٌ	صَادِقٌ
خَضْرَاءُ	أَخْضَرُ	صَغْرَى	أَصْغَرُ	قَرِيبَةٌ	قَرِيبٌ
زَرْقَاءُ	أَزْرَقُ	بَشْرَى	بَشِيرٌ	أَتِيَةٌ	أَتٍ
بَيْضَاءُ	أَبْيَضُ	حَسْنَى	أَحْسَنُ	حَسَنَةٌ	حَسَنٌ
سَوْدَاءُ	أَسْوَدُ			سَيِّئَةٌ	سَيِّئٌ
حَوْرَاءُ	أَحْوَرُ			صَابِرَةٌ	صَابِرٌ
عَمِيَاءُ	أَعْمَى			قَانِتَةٌ	قَانِتٌ
بَكَاءُ	أَبْكُرُ			مَسْلَمَةٌ	مَسْلَمٌ
عَوْرَاءُ	أَعْوَرُ			سَاجِدَةٌ	سَاجِدٌ

نوٹ: اکثر و بیشتر زبانوں میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے مختلف الفاظ پائے جاتے ہیں۔ عربی میں بھی ایسا ہی ہے۔

جب مخاطب مذکر و مؤنث دونوں ہی کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہے تو پھر اس کے لیے مذکر کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں جس میں خواتین خود بخود شامل ہوتی ہیں۔

NOTE: Aksar wa baishitar zabaano mein muzakkar aur muannas dono ke liye mukhtalif alfaaz paaye jate hai.

Arabic mein bhi aisa hi hai. Jab Mukhatib muzakkar wa muannas dono hi ko ek lafz me bayan karna chahe toh phir iska ke liye muzakkar ke alfaaz istemaal kiye jaate hai jis me khawateen khud ba khud shamil hoti hai.

NOTE: In most of the languages different words are used to refer male and female, the case is similar for Arabic. However, when we want to refer both males and females together, then we use the masculine words and the females are automatically included in it.



<p>ایسے الفاظ جن کے آخر میں گول تاء (ة) ہو، مؤنث سمجھے جاتے ہیں اگرچہ حقیقتاً وہ مؤنث نہ بھی ہوں۔ صلوٰۃ (نماز)، جنّۃ (باغ)، حسنۃ (نیکی) وغیرہ۔</p> <p>Aise alfaaz jinke aakhir mein gol taa (ة) ho, Muannas samjhe jate hai agarche haqeeqatan woh muannas na bhi ho. Masalan : Namaaz, Baagh, Neki wagairah.</p> <p>Those words which ends with a round ' (ة) ' are considered as feminine, however they are not female nouns. Example: Salah, garden, deeds etc.</p>	<p>۱</p>
<p>نوٹ: مذکر کے آخر میں بھی گول تاء لگا کر اسے مؤنث بنایا جاسکتا ہے۔ جیسے: عالم سے عالمت، ساجد سے ساجدۃ۔ اس قاعدے سے متعدد الفاظ مشتق ہیں۔ جیسے: خلیفۃ (خلیفہ)، علامۃ (بڑا عالم) وغیرہ۔</p> <p>Muzakkar ke akhir mein bhi gol taa lagakar ise muannas banaya jaa sakta hai. Jaise : Aalim se aalimatun, sajid se sajidatun. Is qaide se mutadid alfaaz mutashni hai. Jaise (khaleefa), (Bada Aalim) wagaira.</p> <p>Example: Aalim to Aalima-tun, Sajid to Sajida-tun. Masculine words can be changed to feminine by adding round 'ta' at the end. However there are few exceptions like words: Khaleefa, Alaama etc</p>	<p>۲</p>
<p>ایسے الفاظ جن کے آخر میں "اء" ہو، انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ سَوْدَاءُ (سیاہ خاتون)، بَيْضَاءُ (سفید خاتون) وغیرہ۔</p> <p>Aise alfaaz jinke aakhir jin ke aakhir me "alif hamza" ho , inhe bhi muannas samjha jata hai. Masalan : (Siyaah Khatoon), (Safayd Khatoon) wagairah.</p> <p>Those words which ends with 'alif and hamza' are considered as feminine Nouns. Example Sauda, Bayda, etc,</p>	<p>۳</p>
<p>ایسے الفاظ جن کے آخر میں "ی" ہو، انہیں بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے۔ صغریٰ (چھوٹی)، کبریٰ (بڑی)، عظمیٰ (عظیم خاتون) وغیرہ۔ اس "ی" کو "الف" پڑھا جاتا ہے۔</p> <p>Aise alfaaz jinke aakhir me "ya" ho, inhe bhi muannas samjha jata hai. Masalan :(Choti), (Badi),(Azeem Khatoon) wagairah. Is "ya" ko "alif" padha jata hai.</p> <p>Those words which ends with 'Arabic YA' are considered as feminine nouns. However Ya is pronounce as Alif. Example Sughra, Kubra, etc.</p>	<p>۴</p>
<p>مؤنث حقیقی: یہ وہ اسم ہے جو کسی حقیقی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثلاً: جَارِيَةٌ (لڑکی)، اُمُّ (ماں)، اُحْتٌ (بہن)، بِنْتُ (بیٹی) وغیرہ۔</p> <p>Muannas Haqeeqi : yeh woh ism hai jo kisi haqeeqi muannas ke liye istemaal hota hai. Masalan : ladki, Maa, Behen, beti wagairah.</p> <p>Original Feminine Nouns: Nouns which are by itself feminine in nature are considered as feminine nouns. Example girl, mother, sister, etc.</p>	<p>۴</p>



مؤنث غیر حقیقی: ہر زبان میں بے جان اشیاء کے نام بھی ہوتے ہیں جو حقیقت میں تو مذکر ہوتے ہیں اور نہ ہی مؤنث۔ اہل زبان انہیں مذکر یا مؤنث فرض کر لیتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ایک لفظ ایک زبان میں مذکر ہو اور دوسری میں مؤنث۔ جیسے اردو میں درخت مذکر ہے جبکہ عربی میں شجرۃ مؤنث ہے۔ اسی طرح اردو میں کتاب مؤنث ہوتی ہے مگر عربی میں اسے مذکر سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زبان سیکھتے وقت یہ جاننا ضروری ہے کہ اس زبان کے لوگ کس چیز کو مذکر اور کس چیز کو مؤنث سمجھتے ہیں۔ اس موقع پر چند اصول یاد کر لیجئے:

Muannas ghair Haqeeqi : Har zubaan me bejaan ashiya ke naam bhi hote hai jo haqeeqat me na toh muzakkar hote hain aur na hi muannas. Ahle zabaan ne inhe muzakkar ya muannas farz karlete hai. Mumkin hai k eek lafz zubaan me muzakkar ho aur dosre me muannas. Jaise urdu me darakht muzakkar hai jabke arabi me shajrah muannas hai. Isi tarah urdu mein kitaab muannas hoti hai magar arabi me ise muzakkar samjha jata hai. Is mauqe par chand usool yaad karli jiye.

None living things are considered as Masculine or Feminine according to Arab culture. There is no "it" in Arabic language. Example Trees are feminine in Arabic.

مندرجہ ذیل الفاظ ہر حال میں مؤنث ہی سمجھے جائیں گے: اَرْضُ (زمین)، حَرْبٌ (جنگ)، سَمَاءٌ (آسمان)، رَيْحٌ (ہوا)، نَفْسٌ (جان)، شَخِصٌ (شخصیت)۔ ملکوں کے ناموں کو بھی مؤنث ہی سمجھا جائے گا۔ ایسے انسانی اعضاء جو دو دو ہیں، کو بھی مؤنث سمجھا جاتا ہے جیسے: يَدٌ (ہاتھ)، رِجْلٌ (پاؤں)، اُذُنٌ (کان) وغیرہ۔

Mandarja zail Alfaaz har hal me muannas hi samjhein jayege : (zameen), (jung), (Aasmaan), (Hawa), (Jaan, shaksiyat)  
Mulko ke naamo ko bhi muannas hi samjha jayega . Jaise : Egypt, Syria, Pakistan wagairah Aise Insaani aa'zaa jo (do do ) hai, is ko bhi muannas samjha jata hai jaise: (Hath), (Paoon), (Kaan) wagairah.

There are some words in Arabic language which are by itself feminine and they have evolved with time. Like names of countries, dual body parts, Earth etc. are all feminine.





## الواحد والتثنية والجمع

01

Wahid, Thathniya aur Jama - Singular, Dual & Plural

جمع مذکر سالم ، جمع مؤنث سالم اور جمع مکسر

Jama muzakkar saalim, Jama mu'annas saalim, aur Jama mukassar

Sound masculine plural, Sound Feminine plural and Broken plural

## الممنوع من الصرف

02

Munsarif aur Ghair Munsarif - Declinable and Indclinable Nouns



Singular, Dual and  
Plural

Wahid, Tasniya Aur Jama'

الواحد والتثنية والجمع

تثنیه اور جمع مذکر سالم کی تصریف

Tasniya Aur Jama' Muzakkar Saalim Ki tasreef

Conjugation of Dual and sound Masculine plural

جمع Jama - Plural		تثنیه Tathniya - Dual		واحد Wahid Singular
حالتِ نصب وجر Accusative case & genitive case	حالت رفع Nominative case	حالتِ نصب وجر Accusative case & genitive case	حالت رفع Nominative case	
مُسْلِمِينَ	مُسْلِمُونَ	مُسْلِمَيْنِ	مُسْلِمَانِ	مُسْلِمٌ
مُؤْمِنِينَ	مُؤْمِنُونَ	مُؤْمِنَيْنِ	مُؤْمِنَانِ	مُؤْمِنٌ
عَابِدِينَ	عَابِدُونَ	عَابِدَيْنِ	عَابِدَانِ	عَابِدٌ
مُنَافِقِينَ	مُنَافِقُونَ	مُنَافِقَيْنِ	مُنَافِقَانِ	مُنَافِقٌ

تثنیه اور جمع مؤنث سالم کی تصریف

Tasniya aur jama' muannas saalim ki tasreef

Conjugation of Dual and sound Feminine plural

جمع Jama - Plural		تثنیه Tathniya - Dual		واحد Wahid Singular
حالتِ نصب وجر Accusative case & genitive case	حالت رفع Nominative case	حالتِ نصب وجر Accusative case & genitive case	حالت رفع Nominative case	
مُسْلِمَاتٍ	مُسْلِمَاتُ	مُسْلِمَتَيْنِ	مُسْلِمَتَانِ	مُسْلِمَةٌ
مُؤْمِنَاتٍ	مُؤْمِنَاتُ	مُؤْمِنَتَيْنِ	مُؤْمِنَتَانِ	مُؤْمِنَةٌ
عَابِدَاتٍ	عَابِدَاتُ	عَابِدَتَيْنِ	عَابِدَتَانِ	عَابِدَةٌ
مُنَافِقَاتٍ	مُنَافِقَاتُ	مُنَافِقَتَيْنِ	مُنَافِقَتَانِ	مُنَافِقَةٌ



Doer Noun and  
Object Noun


Ism-e-Faayel aur  
Mafool

اسم الفاعل و المفعول

Isme Faayel   Doer Noun   اسم الفاعل					
English	Roman	اردو	عربی		
			حالتِ جر Genitive case	حالتِ نصب Accusative case	حالتِ رفع Nominative case
<b>Masculine مذکر</b>					
Helper (Sigular)	Naasirun	مدد کرنے والا	نَاصِرٍ	نَاصِرًا	نَاصِرٌ
Helpers (Dual)	Naasiraani	مدد کرنے والے (دونوں)	نَاصِرَيْنِ	نَاصِرَيْنِ	نَاصِرَانِ
Helpers (Plural)	Naasiroona	مدد کرنے والے (سب)	نَاصِرِيْنَ	نَاصِرِيْنَ	نَاصِرُوْنَ
<b>Feminine مونث</b>					
Helper (Sigular)	Naasiratun	مدد کرنے والی	نَاصِرَةٍ	نَاصِرَةً	نَاصِرَةٌ
Helpers (Dual)	Naasirataani	مدد کرنے والیاں (دونوں)	نَاصِرَتَيْنِ	نَاصِرَتَيْنِ	نَاصِرَاتَانِ
Helpers (Plural)	Naasiraatun	مدد کرنے والیاں (سب)	نَاصِرَاتٍ	نَاصِرَاتٍ	نَاصِرَاتٌ
<b>Isme Maf'ool   Object Noun   اسم المفعول</b>					
English	Roman	اردو	عربی		
			حالتِ جر Genitive case	حالتِ نصب Accusative case	حالتِ رفع Nominative case
<b>Masculine مذکر</b>					
One who was helped	Mansoorun	جس کی مدد کی گئی	مَنْصُورٍ	مَنْصُورًا	مَنْصُورٌ
Both who were helped	Mansooraaani	جن دونوں کی مدد کی گئی	مَنْصُورَيْنِ	مَنْصُورَيْنِ	مَنْصُورَانِ
All who were helped	Mansooroona	جن سب کی مدد کی گئی	مَنْصُورِيْنَ	مَنْصُورِيْنَ	مَنْصُورُوْنَ
<b>Feminine مونث</b>					
One who was helped	Mansooratun	جس کی مدد کی گئی	مَنْصُورَةٍ	مَنْصُورَةً	مَنْصُورَةٌ
Both who were helped	Mansoorataani	جن دونوں کی مدد کی گئی	مَنْصُورَتَيْنِ	مَنْصُورَتَيْنِ	مَنْصُورَاتَانِ
All who were helped	Mansooraatun	جن سب کی مدد کی گئی	مَنْصُورَاتٍ	مَنْصُورَاتٍ	مَنْصُورَاتٌ



Useful for teachers





عدد کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں:

**Adad Ke Aet-e-baar Se Ism Ki Teen Qismen Hai:**

There are 3 types of Nouns in Arabic from the point of view of Numbers, Singular, Dual and Plural

Singular	Wahed	واحد
تعریف: وہ اسم جو ایک عدد پر دلالت کرے <b>Ta'reef : Wo Ism jo ek adad par dalalat kare</b> Intro: Referring One	مثال: رَجُلٌ ، اِمْرَاةٌ- <b>Misaal : Rajulun, Imra'atun</b> Single: Example: Man, Woman.	



Singular, Dual  
and Plural



Wahid, Tathniya aur  
Jamaa

الواحد والتثنية والجمع

Dual	Tasniya	تثنیه
تعریف: وہ اسم جو دو عدد پر دلالت کرے۔ Ta'reef: Jo Do Cheezo Ko Bataaye Definition: It refers to two.	مثال: رَجُلَانِ - رَجُلَيْنِ - اِمْرَاتَانِ - اِمْرَاتَيْنِ Misaal :Rajulaani, Rajulaini Imra'ataani Imra'ataini. Example: 2Men, 2Women.	
Grammar Rule	Qaida	قاعده
<p>تثنیہ اس طرح بنایا جاتا ہے کہ واحد کے آخری حرف کو (زبر) فتح دے دیا جاتا ہے۔ حالت رفع میں الف اور نون مکسورہ (زیر والا نون) بڑھایا جاتا ہے۔ حالت نصب اور جر میں یاء (ی) اور نون مکسورہ (زیر والا نون) بڑھایا جاتا ہے۔</p> <p>Tareef: Tasniya is tarha banaya jata hai ke wahid (mufrad) ke Akhri harf ko zabar (fatha) de diya jata hai. Halat-e-rafa me alif aur noon-e-maksoorah (zer wala noon) badhaaya jata hai. Halat-e-nasab aur halat-e-jar me alif aur noon-e-maksoorah (zer wala noon) badhaaya jata hai.</p> <p>Dual Noun for a nominative case is made by adding Alif and Noon at the end while Dual noun accusative case and genitive case is made by adding Ya and Noon.</p>		

Plural	Jama	جمع
تعریف: جو دو سے زیادہ پر دلالت کرے۔ Ta'reef : Jo Do Se Zyada Par Dalalat Kare. Definition : It refers to more than two	مثال: رَجَالٌ - رَجَالًا - رَجَالٍ مُسْلِمُونَ - مُسْلِمِينَ - مُؤْمِنَاتٌ - مُؤْمِنَاتٍ	

There are two Types of Plural	Jama' Ki Do Qismein	جمع کی دو قسمیں
جمع مکسر Jama' Mukassar   Broken Plural	جمع سالم Jama' Saalem   Sound Plural	



Singular, Dual  
and Plural

Wahid, Tathniya aur  
Jamaa

الواحد والتثنية والجمع

Sound Plural	Jama' Saalem	جمع سالم
جمع مؤنث سالم		جمع مذکر سالم
Jama' munnas Saalem - Female Sound Plural		Jama' muzakkar Saalem - Male Sound Plural
<p>تعریف: وہ جمع جس کے واحد کی شکل نہیں بدلتی اور جس کے آخر میں واو نون یا ی نون زیادہ کر کے جمع بنائی جاتی ہے اور مؤنث میں الف تاء بڑھایا جاتا ہے۔</p> <p>Tareef: Wo jama jis ke wahid ki shakal nahi badalti aur jis ke aakhir me waw noon ya yaa noon ziyada karke jama banaee jaati hai awr mu'annas me alif taa badhaaya jata hai.</p> <p>Sound plural can be made for those nouns whose singular form doesn't change, their plural can be made by adding Waaw and Noon for nominative case and Ya and Noon for accusative and genitive case. For feminine form Alif and Ta is added to make it plural, EX: Muslimoona, Muslimeena, Muslimaaton</p>		
مؤمِنَاتٌ - مؤمِنَاتٌ - مؤمِنَاتٌ - مَرِيِمٌ - مَرِيِمَاتٌ		مُسْلِمٌ - مُسْلِمِيْنَ - مُسْلِمُوْنَ
Grammar Rule	Qaida	قاعده
Feminine		Masculine
<p>واحد (مفرد) کو تبدیل نہ کر کے اس کے آخر میں حالت رفع میں الف (ا) اور تاء مضمومہ (پیش والی) بڑھائی جائے</p> <p>حالت نصب اور جر میں الف (ا) اور تاء مکسورہ (زیر والی) بڑھائی جائے</p> <p>Wahid (mufrad) ko tabdeel na kar ke is ke aakhir me:</p> <p>mazmooma (pesh) comes in last</p> <p>Halat-e-rafa me alif aur taa-e-mazmooma (pesh waali) badhae jaye</p> <p>Halat-e-nasab aur jarr me alif aur taa -e-maksoora (zer waali) badhae jaye</p> <p>Plural is made by not changing the singular noun &amp; adding the following:</p> <p>(۱) In nominative case Alif and Taa is suffixed</p> <p>(۲) In genitive and accusative case Alif and Taa maksoorah is suffixed.</p>		<p>واحد (مفرد) کو تبدیل نہ کر کے اس کے آخر میں حالت رفع میں واو (و) اور نون مفتوحہ (زیر والا) بڑھایا جائے</p> <p>حالت نصب اور جر میں یاء (ی) اور نون مفتوحہ (زیر والا) بڑھایا جائے۔</p> <p>Wahid (mufrad) ko tabdeel na kar ke is ke aakhir me:</p> <p>Halat-e-rafa me waw aur noon maftooha (zabar wala) badhaya jaye</p> <p>Halat-e-nasab aur jarr me yaa aur noon maftooha (zabar wala) badhaya jaye</p> <p>Plural is made by not changing the singular noun &amp; adding the following:</p> <p>(۱) In nominative case waw and noon maftooha (zabar) is suffixed.</p> <p>(۲) In genitive and accusative case yaa and noon maftooha is suffixed.</p>
<p>نوٹ بعض کی جمع میں "ت" نہیں آتا جیسے: شَاةٌ : شِيَاهٌ ، اُمَّةٌ : اِمَاءٌ ، مَلَّةٌ : مَلَلٌ</p>		



Singular, Dual  
and Plural

Wahid, Tathniya aur  
Jamaa

الواحد والتثنية والجمع

Broken Plural	Jama' Mukassar	جمع مكثر
<p>تعریف: جس میں واحد کا اصلی وزن باقی نہ رہے بلکہ الگ ہو جائے۔</p> <p><b>Ta'reef : Jisme Wahed Ka Asli Wazan Baaqi Na Rahe Balke Alag Hojaye</b></p> <p>Definition: In a broken plural a singular form doesn't remain same and gets changed.</p>	<p>کُتُبٌ ، رِجَالٌ۔</p> <p><b>Kutbun, Rijaalun</b></p> <p>Plural Of Kitaabun Is Kutbun, Plural Of Rajulun Is Rijaalun</p>	
Grammar Rule	Qaida	قاعدہ
<p>سَهْمٌ + سِهَامٌ</p>	<p>اسکے اصلی حروف میں کوئی حرف زیادہ کر کے</p> <p><b>Iske asli huroof me koi harf ziyada kar ke</b> By adding few letters in the original form</p>	
<p>رَسُولٌ + رُسُلٌ</p>	<p>کوئی حرف کم کر کے</p> <p><b>Koi harf kam karke</b> By removing a letter</p>	
<p>أَسَدٌ + أَسَدٌ</p>	<p>حرکات کو بدل کے</p> <p><b>Harkaat ko badal karke</b> By changing the Harakaat (vowel signs)</p>	
<p>هَجَانٌ + هِجَانٌ</p>	<p>مفرد اور جمع دونوں برابر ہوتے ہیں</p> <p><b>Mufrad aur jama dono baraabar hote hain.</b> The Singular and plural form are same.</p>	
<p>نوٹ: ان میں کے اکثر اوزان سماعی ہوتے ہیں۔</p> <p><b>Note: In me ke aksar auzaan simaa'ee hote hain</b></p> <p>Note: There is no fixed rule for making broken plural. It has just been evolved and learnt from the Arabs</p> <p>حَمَامَاتٌ، سَمَوَاتٌ، أَمَهَاتٌ، ثِيَابٌ</p> <p>Hammamaath, samaawaat, ummahaat, thayyibaat</p>		





## i. واحد، ثننیہ اور جمع ( جمع مکسر و سالم اور جمع مؤنث ) کو پہچانیے

Waahed Tasniya Aur Jama' (Jama' Mukassar Wa Saalem Aur Jama' Muannas) Ko Pehchaniye:  
Find Singular, Dual And Plural (Broken Nouns And Sound Nouns And Feminine Plural Nouns)

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ . (الكهف: ٨٢)	وَالْجِبَالُ أَوْتَادًا . (النبأ: ٧)
جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ . (الكهف: ٨٢)	لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا . (الاعراف: ١٧٩)
وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ . (الرحمن: ٤٦)	فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ . (النساء: ٣)
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ . (آل عمران: ١٤٠)	إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ . (التغابن: ١٤)
وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . (آل عمران: ١٣٦)	ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ . (غافر: ٢٢)
أَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . (يوسف: ٣٩)	لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ . (النور: ٢٩)
إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا . (الاحزاب: ٣٥)	

## ii. منصرف اور غیر منصرف کو پہچان کر لکھیے۔

Munsarif Aur Ghair Munsarif Ko Pehchan Kar Likhe

Identify Declinable Nouns And Indeclinable Nouns

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ . قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ . فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي

شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . (البقرة: ١٣٧-١٣٥)





Declinable and  
Indeclinable Noun

Munsarif aur Ghair  
Munsarif

الممنوع من الصرف

Declinable Noun	Munsarif	منصرف
<p>تعریف: وہ اسماء جن کے آخر میں تینوں اعراب یعنی زبر، زیر اور پیش آتے ہیں۔</p> <p><b>Ta'reef : Woh asmaa jin ke aakhir me teeno e'raab yan zabar, zer aur pesh aate hai.</b></p> <p>Definition: Those nouns which decline and change their form by Fatha, Damma, Kasarah.</p> <p>EX: Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin</p>		<p>مثال Example</p> <p>جاء خالد، رأيتُ خالدًا، سلمتُ على خالدٍ</p>

Indeclinable Noun	Ghair Munsarif	غیر منصرف
<p>تعریف: وہ اسماء جن کے آخر میں زیر نہیں آتا بلکہ زیر کی جگہ پر زبر دیا جاتا ہے۔ اور غیر منصرف میں تنوین نہیں آتی</p> <p><b>Ta'reef : Woh Asmaa Jin ke aakhir me zer nahi aata balke zer ki jagah par zabar diya jata hai. Aur gair munsarif me tanween nahi aati</b></p> <p>Definition: Those nouns which do not decline by Kasarah, but Fataha is put instead of Kasarah. Moreover tanveen doesn't come in indeclineable nouns</p>		<p>مثال Example</p> <p>جاء عثمان، رأيتُ عثمانَ، سلمتُ على عثمانَ</p>



ایک نظر

A Glimpse – Ek Nazar




Murakkab

Murakkab

مرکب

Useful for teachers



دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعہ کو مرکب کہتے ہیں۔

جیسے: الولد صالح، ولد صالح۔

Do Ya Do Se Zaaed Alfaaz Ke Majmua' Ko Murakkab Kehte Hai  
Combination of two or more words is compounder Murakkab

مرکب کی دو قسمیں ہیں

الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں آئے۔

Murakkab E Taam :Alfaaz Ka Aisa Majmua Jis Se Poori Baar Samajh Me Aaye

1. Murakkabe Taam : Combination of words in which meaning is clear.

مرکب تام

Murakkab e

Taam

Complete sentence

الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔

Murakkab E Naaqis : Alfaaz Ka Aisa Majmua Jis Se Poori Baat Samajh Me Na Aaye.

2. Murakkab E Naaqis: Combination of words in which meaning is unclear.

مرکب ناقص

Murakkab E Naaqis

Incomplete sentence



## مرکب ناقص کی دو مشہور قسمیں ہیں

### مرکب توصیفی

**Murakkab E Tauseefi** | Descriptive Phrase or Adjective Phrase

ایسا مرکب جو موصوف اور صفت سے مل کر بنا ہو

**Murakkab E Tauseefi : Aisa Murakkab Jo Mausooof Aur Sifat Se Milkar Bana Ho.**

Descriptive Phrase: The phrase formed with noun and its adjectives. It describe quality of noun or pronoun.

### مرکب اضافی

**Murakkab E Izaafi** | Possessive Phrase

وہ مرکب ہے جس میں ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کلمے کی جانب کی جائے جیسے (کتابِ حامد : حامد کی کتاب)

**Murakkab E Izaafi : Woh Murakkab Hai Jis Me Ek Kalme Ki Nisbat Dosre Kalme Ki Janib Ki Jaaye Jaise کتابِ حامد (Haamid Ki Kitaab)**

Possessive Phrase: The phrase which modify a noun by showing form of possession or a sense of belonging to a particular person or thing.

اس مثال میں کتاب کی نسبت حامد کی طرف کی گئی ہے۔ جس کلمے کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس کلمے کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں۔

**Iss Misaal me Kitaab Ki Nisbat Haamid Ki Taraf Ki Gayi Hai. Jis Kalme Ki Nisbat Ki Jaati Hai , Ise Muzaaf Kehte Hai Aur Jis Kalme Ki Taraf Nisbat Ki Jati Hai Ise Muzaaf Ilai Kehte Hai.**

In this example, book is possessed to Hamid. So first noun is called as possessed and second noun is called possessor.



مرکب تام

Murakkab e Taam | Complete Sentence

جس ترکیب سے پوری بات سمجھ آجائے اس کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام جملہ بھی ہے۔

Murakkab E Taam : Jis Tarkeeb Se Poori Baat Samajh Aa Jaye Isko Murakkab E Taam Kehte Hai Aur Iska Dosra Naam Jumla bhi Hai.

Murakkab E Taam : The sentence which gives complete meaning.

جملہ کی دو قسمیں ہیں

Jumla Ki Do Qismein Hai | Two types of sentences

جملہ اسمیہ

Jumla E Ismiya | Nominal sentences

جو جملہ مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔

Jumla E Ismiya : Jo Jumla Mubtida Aur Khabar Se Milkar Banta Hai.

Nominal Sentence: It is formed with subject and predicate.

جملہ فعلیہ

Jumla E Feliya | Verbal sentences

جس جملہ کی ابتداء فعل سے ہو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔

Jis Jumla Ki Ibtadaa Fayl Se Ho Isko Jumla E Fayliya Kehte Hai.

The sentence which begins with verb (fel) is called as verbal sentence





النعته والمنعوت

01

Na't wal Man'oot  
Nouns and its adjectives



Examples from Quran	Qur'aani Misaalein	قرآنی مثالیں
	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . (النمل: ۳۰)	
	الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِیْمِ . (الفاتحة: ۵)	
	وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ . (آل عمران: ۱۷۶)	
	وَلَهُمْ فِيهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ . (البقرة: ۲۵)	
	اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ . (البقرة: ۳۲)	
	اِنَّهٗ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ . (البقرة: ۳۷)	

### موصوف صفت

موصوف: جس کی اچھی یا بری صفت بیان کی جائے اسے موصوف کہتے ہیں۔ موصوف کو منعوت بھی کہتے ہیں۔  
صفت: وہ تابع جو متبوع کی ذات یا اس کے متعلق کا وصف، یعنی اس کی اچھی یا بری صفت بتائے۔ صفت کو نعت بھی کہتے ہیں۔

### موصوف صفت میں مطابقت:

صفت حقیقی اعراب (زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش)، تذکیر و تانیث، تعریف و تنکیر، افراد و تثنیہ اور جمع میں اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے۔ جیسے: جاء رجلٌ عالمٌ  
جبکہ صفت سببی کا صرف اعراب اور تعریف و تنکیر میں متبوع کا مطابق ہونا ضروری ہے۔  
جیسے: جاءت المرأة العالمٌ زوجها۔ اس میں المرأة موصوف اور العالم صفت سببی ہے۔





Equality in nouns  
and its objectives

Mutabaqat-e-mau'soof  
& sifat

مطابقتِ موصوف و صفت

معرفه Maarifa Definite		نكرة Nakirah Indefinite		مطابقتِ موصوف و صفت Mutabaqat-e-mau'soof & sifat Equality in nouns and its adjectives		
مؤنث Mu'annas Feminine Gender	مذكر Muzakkar Masculine gender	مؤنث Mu'annas Feminine Gender	مذكر Muzakkar Masculine gender			
البناتُ الصالحَةُ	الولدُ الصالحُ	بناتُ صالحَةٍ	ولدُ صالحٍ	رفع	Vowel Signs Rafa, Nasab, Jarr	واحد Wahid Singular
البناتِ الصالحَةِ	الولدِ الصالحِ	بناتًا صالحَةٍ	ولدًا صالحًا	نصب		
البناتِ الصالحَةِ	الولدِ الصالحِ	بناتٍ صالحَةٍ	ولدٍ صالحٍ	جر		
البناتانِ الصالحَتانِ	الولدانِ الصالحانِ	بناتانِ صالحَتانِ	ولدانِ صالحانِ	رفع		ثنائية Tasniya Dual
البناتَيْنِ الصالحَتَيْنِ	الولدَيْنِ الصالحَيْنِ	بناتَيْنِ صالحَتَيْنِ	ولدَيْنِ صالحَيْنِ	نصب		
البناتَيْنِ الصالحَتَيْنِ	الولدَيْنِ الصالحَيْنِ	بناتَيْنِ صالحَتَيْنِ	ولدَيْنِ صالحَيْنِ	جر		
البناتُ الصالحاتُ	الاولادُ الصالحونَ	بناتُ صالحاتُ	اولادِ صالحونَ	رفع		جمع Jama Plural
البناتِ الصالحاتِ	الاولادِ الصالحينَ	بناتٍ صالحاتٍ	اولادًا صالحينَ	نصب		
البناتِ الصالحاتِ	الاولادِ الصالحينَ	بناتٍ صالحاتٍ	اولادٍ صالحينَ	جر		





المضاف والمضاف اليه

01

Muzaaf and Muzaaf Ilaih  
Possessive Phrase



## مضاف مضاف اليه کی مثالیں



Muzaaf Muzaaf ilaih ki misaalen

Examples of possessed and possessor

رسولُ اللّٰهِ	اللّٰه کے رسول
نَصْرُ اللّٰهِ	اللّٰه کی مدد
نَارُ اللّٰهِ	اللّٰه کی آگ
حَدِيثُ الْجَنُودِ	لشکروں کی کہانی
حِزْبُ الشَّيْطَانِ	شیطان کا گروہ
صَاحِبُ الْحَوْتِ	مچھلی والا
يَوْمُ الْفَصْلِ	فیصلے کا دن
بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ	بلکہ اللّٰه کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں

Possessed	Muzaaf	مضاف
<p>تعریف: جس کلمہ کی نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف کہتے ہیں۔</p> <p>Tareef: Jis kalme ki nisbat ki jaati hai ise muzaaf kehte hai</p> <p>Words which shows the things or person being owned are called Muzaaf.</p>		<p>رسولُ اللّٰهِ</p> <p>Allaah ke Rasool</p> <p>Messenger of Allaah</p>

Possessor	Muzaaf ilaih	مضاف اليه
<p>تعریف: جس کلمہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسے مضاف اليه کہتے ہیں۔</p> <p>Tareef: Jis kalme ki taraf nisbat ki jati hai ise muzaaf ilai kehte hai</p> <p>Definition: Words which shows the one who owns the thing or person is called Muzaaf Ilaih or Possessor.</p>		<p>رسولُ اللّٰهِ</p> <p>Allaah ke Rasool</p> <p>Messenger of Allaah</p>



نوٹ - NOTE



In English language possessor comes before possessed but in Arabic its opposite.	Urdu mein muzaaf ilai pehle aur muzaaf baad mein aata hai. Arabi me iske baraks muzaaf pehle aur muzaaf ilai baad me aata hai.	اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے عربی میں اس کے برعکس مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔
On Possessed 'al' and tanween will not come. Zer always comes on possessor. (Zer is visible most of the time and sometimes invisible) If possessed is dual or masculine sound plural then noon will be deleted.	Muzaaf par "Alif Laam" aur tanween nahi aati. / Muzaaf iali par hamesha zer aata hai. (Aksar auqaat nazar aata hai baaz auqaat nazar nahi aata) Muzaaf agar tathniya ya jama muzakar saalim ho tu noon girta hai	مضاف پر "ال" اور تنوین نہیں آتی۔ / مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر آتا ہے۔ (اکثر اوقات نظر آتا ہے بعض اوقات نظر نہیں آتا) مضاف اگر تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہو تو نون گر جاتا ہے
Alif Laam or Tanween can come on possessor. If Alif Laam doesn't come then tanween comes, and if Alif Laam comes then tanween will not come.	Muzaaf iali par "Alif laam" ya tanween aasakti hai. Agar muzaaf ilai pas "Alif laam" nahi aaye toh tanween aayegi aur agar hai toh tanween nahi aayegi.	مضاف الیہ پر "ال" یا تنوین آتی ہے۔ اگر مضاف الیہ پر "ال" نہیں آئے تو تنوین آئے گی اور اگر ہے تو تنوین نہیں آئے گی۔

مضاف مضاف الیہ کی چند شکلیں

Muzaaf Muzaaf iali ki chand shaklein

Few examples of possessed and possessor

وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ. (المائدة: ۸۵)	مضاف + مضاف الیہ (معرفہ)
لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. (سبا: ۲۲)	مضاف + مضاف الیہ (نکرہ)
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. (آل عمران: ۱۰۳)	مضاف + مضاف الیہ (علم)
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. (الكافرون: ۶)	مضاف + مضاف الیہ (ضمیر)
مَنَارَةُ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ	مضاف + مضاف الیہ (موصوف صفت)
مَنَارَةُ الْمَسْجِدِ الْجَمِيلَةِ	مضاف موصوف + مضاف الیہ + صفت





## المبتدأ والخبر

01

Mubtada khabar - Subject and predicate

## المبتدأ والخبر وأقسامها

02

Mubtada aur khabar ki tabdeel shuda haalatein

Inna aur uske saathi - Inna & its Sisters إن و اخواتها

kaana aur uske saathi - kaana & its Sisters كان و اخواتها

Maa wa Laisa - Maa and Laisa ما و ليس

Hal aur hamza istifhaam - Hal and hamza istifhaam (استفهام) هل اور "أ"



مشالين



١- اللَّهُ أَعْلَمُ

٢ - اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ

٣ - اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

٤ - أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةٍ

٥ - كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ



واحد مذکر غائب Wahid muzakkar gayeb   Male 3rd person	هُوَ سَاجِدٌ	1
تثنیہ مذکر غائب Tasniyah muzakkar gayeb   Male 3rd person (Dual)	هُمَا سَاجِدَانِ	2
جمع مذکر غائب Jama' muzakkar gayeb   Male 3rd person (Plural)	هُمْ سَاجِدُونَ	3
واحد مؤنث غائب Wahid muannas gayeb   Female 3rd Person	هِيَ سَاجِدَةٌ	4
تثنیہ مؤنث غائب Tasniyah muannas gayeb   Female 3rd Person (Dual)	هُمَا سَاجِدَتَانِ	5
جمع مؤنث غائب Jama' muannas gayeb   Female 3rd person (plural)	هِنَّ سَاجِدَاتٌ	6
واحد مذکر حاضر Wahid muzakkar hazir   Male 2nd person	أَنْتَ سَاجِدٌ	7
تثنیہ مذکر حاضر Tasniyah muzakkar hazir   Male 2nd person (dual)	أَنْتُمَا سَاجِدَانِ	8
جمع مذکر حاضر Jama' muzakkar hazir   Male 2nd person (plural)	أَنْتُمْ سَاجِدُونَ	9
واحد مؤنث حاضر Wahid muannas hazir   Female 2nd person	أَنْتِ سَاجِدَةٌ	10
تثنیہ مؤنث حاضر Tasniyah muannas hazir   Female 2nd person (dual)	أَنْتُمَا سَاجِدَتَانِ	11
جمع مؤنث حاضر Jama' Muwannas   Female 2nd person (plural)	أَنْتُنَّ سَاجِدَاتٌ	12
واحد متکلم Wahid mutakallim   1st person	أَنَا سَاجِدٌ	13
جمع متکلم Jama' mutakallim   1st person plural	نَحْنُ سَاجِدُونَ	14



Subject	Mubteda	مبتدا
<p>تعریف: مبتدا وہ اسم ہے جس کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔ (اس کو مبتدا اس لئے کہتے ہیں کہ اس سے جملہ شروع ہوتا ہے)۔</p> <p>Tareef: Mubteda woh Ism hai jis ke bare mai kuch bataya jaye. (Isko mubteda isliye kehte hai ke is se jumla shuru hota hai)</p> <p>Definition: Mubteda or subject is a noun about which something is being informed. It comes at the beginning and requires further explanation.</p>		<p>مہر مہر الولد مجتہد</p> <p>Ladka mahnati hai The boy is hardworking</p>

Predicate	Khabar	خبر
<p>تعریف: خبر وہ لفظ ہے جس کے ذریعہ مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جائے۔</p> <p>Ta'reef: Khabar woh lafz hai jis ke zariye mubteda ke bare mai kuch bataya jaye.</p> <p>Definition: Predicate is a noun which gives information and explains the subject.</p>		<p>مہر مہر الولد مجتہد</p> <p>Ladka mahnati hai The boy is hardworking</p>

## نوٹ - NOTE

Note: subject is always definite noun and predicate is always indefinite noun.	Note: Mubteda aam taur per ma'arifa hota hai. Aur khabar hamesha nakerah hoti hai.	مبتدا عام طور پر معرفہ ہوتا ہے۔ اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے۔
'al' will not come for proper nouns.	Agar mubteda kisi ka khas naam hai toh uss per "Al" dakhil nahi hoga.	اگر مبتدا کسی کا خاص نام ہے تو اس پر "ال" داخل نہیں ہوگا۔
If subject is masculine then predicate will also be masculine and vice versa.	Mubteda muzakkar ho toh uski khabar bhi muzakkar hogi, aur agar mubteda muannas ho toh uski khabar bhi muannas hogi.	مبتدا مذکر ہو تو اس کی خبر بھی مذکر ہوگی، اور اگر مبتدا مؤنث ہو تو اس کی خبر بھی مؤنث ہوگی۔
Singular, Dual and plural predicate will be similar to the subject.	Wahid, tasniyah aur jama' mai khabar apne mubteda ke mutabiq hogi.	واحد، تشنیہ اور جمع میں خبر اپنے مبتدا کے مطابق ہوگی۔





Some patterns of Subject and Predicate	Mubteda, khabar ki ba'az Suratain	مبتدا، خبر کی بعض صورتیں	
Singular (Subject) + Singular (Predicate)	Wahid (Mubteda) + Wahid (Khabar)	واحد (مبتدا) + واحد (خبر)	1
الإِسْلَامُ حَقٌّ، أَنْتَ مُسْلِمٌ، هَذَا كِتَابٌ، الْحَقُّ مَرَّةً، اللَّهُ أَحَدٌ، مُحَمَّدٌ رَسُولٌ، الْقُرْآنُ مَحْفُوظٌ.			
Singular (Subject) + Nominal Sentence (Predi- cate)	Wahid (Mubteda) + jumla ismiya (khabar)	واحد (مبتدا) + جملة اسمية (خبر)	2
زَيْدٌ أَبُوهُ قَائِمٌ، الْبَيْتُ فَنَاءَهُ وَاسِعٌ، الْكِتَابُ وَرَقُهُ مَذْهَبٌ، حَامِدٌ صَدِيقُهُ عَالِمٌ، عَائِشَةُ صَدِيقَتُهَا عَالِمَةٌ.			
Singular (Subject) + Verbal Sentence (Predicate)	Wahid (mubteda) + jum- la fayliyah (khabar)	واحد (مبتدا) + جملة فعلية (خبر)	3
اللَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، الْمُؤْمِنُ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، زَيْدٌ يَجْتَهِدُ فِي الْمَعْمَلِ، عَائِشَةُ تُصَلِّي فِي بَيْتِهَا، زَيْنَبُ تُطْبِخُ فِي الْمَطْعَمِ.			
Singular (Subject) + (Predicate) conjunctions	Wahid (mubteda) + Jar majroor (khabar)	واحد (مبتدا) + جار مجرور (خبر)	4
الْحَلِيبُ فِي الْكَأْسِ، الْقَلَمُ فِي الْجَيْبِ.			
Singular (Subject) + Possessed and Possessor (Predicate)	Wahid (mubteda)+muzaaf, muzaafileh (khabar)	واحد (مبتدا) + مضاف، مضاف اليه (خبر)	5
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، الْعَيْنُ نِعْمَةُ اللَّهِ، الْقُرْآنُ كِتَابُ اللَّهِ، اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، النَّاسُ عِبَادُ اللَّهِ			
Prepositions (Predicate) + Indefinite (Subject)	Hurf e Jar (khabar) + mubteda nakrah	حروف جر (خبر) + نكره (مبتدا)	6
إِلَى اللَّهِ مَلَجًا، فِي الْبَيْتِ رَجُلٌ، إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، فِي الْجَنَّةِ حُورٌ			
Demonstrative Pronoun (Subject) + (Predicate) Descriptive phrase	Asmaaye Isharah (mubteda) + mousoof sifat (khabar)	اسماء اشارة (مبتدا) + موصوف صفت (خبر)	7
هَذَا رَجُلٌ كَرِيمٌ، ذَلِكَ بَيْتٌ جَمِيلٌ، هَذَا قَلَمٌ قَدِيمٌ، هَذَا كِتَابٌ مَفِيدٌ			



# الباب الثانی

فعل اور جملہ فعلیہ کی بحث





## أقسام الفعل

01

Fel ki qisme - Types of Verb

الماضي

Maazi - Past tense



# فعل FEL – VERB

فعل (verb) کی چار قسمیں ہیں:

Fel (verb) ki char Qisme hai:

There are 4 types of verb

1. Past tense	Maazi	1. الماضي
2. Present and future tense	Muzaar'e	2. المضارع
3. Imperative (Positive)	Amr	3. الأمر
4. Imperative (Negative)	Nahi	4. النهي





Past	Maazi	ماضي
<p>تعريف: ماضی وہ فعل ہے جس سے کسی کام کا زمانہ گزشتہ میں واقع ہونا سمجھا جائے۔</p> <p><b>Tareef:</b> Maazi wo fel hai jis se kisi kaam ka zamana gujishta mai waq'ehona samjha jaye.</p> <p><b>Definition:</b> The work or an action which was completed in past.</p>		<p>فَعَلَ</p> <p>Fa-A-La</p> <p>Usne kiye</p> <p>He did</p>

فعل ماضی تین اوزان پر آتا ہے۔ فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ (یعنی حرفِ عین پر تغیر واقع ہوتا ہے)

Fel maazi teen/3 tarha se aata hai. Fa'AA'La, Fa'ee'la, Fa'oo'la



(Yani huruf A'yeen per tageer waqqye hota hai)

They are of 3 patterns	Teen khisme hain	تین قسمیں ہیں
<p>أَكَلَ      جَلَسَ      دَخَلَ      فَتَحَ</p> <p>نَصَرَ      ضَرَبَ      ذَهَبَ      غَسَلَ</p>		<p>فَعَلَ کی مثالیں</p> <p>Fa-a-la ki misaalain</p> <p>Examples of Fa'a'la</p>
<p>عَلِمَ      سَمِعَ      لَبَسَ      شَرِبَ</p> <p>حَسِبَ      فَهِمَ      شَهِدَ      جَهِلَ</p>		<p>فَعِلَ کی مثالیں</p> <p>Fa-e-la ki misaalain</p> <p>Examples of Fa'e'la</p>
<p>كُرِمَ      كَثُرَ      قُرِبَ      بَعُدَ</p> <p>ضَعُفَ      كَبُرَ      حَسُنَ      شَرُفَ</p>		<p>فَعُلَ کی مثالیں</p> <p>Fa-o-la ki misaalain</p> <p>Examples of Fa'o'la</p>





## تصريف فعل ماضی "معروف"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He did	اس نے کیا	Fa-a-la	فَعَلَ
They (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-laa	فَعَلَا
They (all) did	ان سب نے کیا	Fa-a-loo	فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She did	اس نے کیا	Fa-a-lat	فَعَلَتْ
They (both) did	ان دونوں نے کیا	Fa-a-la-taa	فَعَلَتَا
They (all) did	ان سب نے کیا	Fa-al-na	فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You did	تم نے کیا	Fa-al-ta	فَعَلْتَ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tu-maa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tum	فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You did	تم نے کیا	Fa-al-ti	فَعَلْتِ
You (both) did	تم دونوں نے کیا	Fa-al-tumaa	فَعَلْتُمَا
You (all) did	تم سب نے کیا	Fa-al-tunna	فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I did	میں نے کیا	Fa-al-tu	فَعَلْتُ
We did	ہم نے کیا	Fa-al-naa	فَعَلْنَا





## تصریف فعل ماضی ”مجہول“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He was helped	وہ مدد کیا گیا	Nusira	نُصِرَ
They both were helped	وہ دونوں مدد کیے گئے	Nusiraa	نُصِرَا
They all were helped	وہ سب مدد کیے گئے	Nusiroo	نُصِرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She was helped	وہ مدد کی گئی	Nusirat	نُصِرَتْ
They both were helped	وہ دونوں مدد کی گئیں	Nusirataa	نُصِرَتَا
They all were helped	وہ سب مدد کی گئیں	Nusirna	نُصِرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You were helped	تو مدد کیا گیا	Nusirta	نُصِرْتَ
You (both) were helped	تم دونوں مدد کیے گئے	Nusirtumaa	نُصِرْتُمَا
You all were helped	تم سب مدد کیے گئے	Nusirtum	نُصِرْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You were helped	تو مدد کی گئی	Nusirti	نُصِرْتِ
You (both) were helped	تم دونوں مدد کی گئیں	Nusirtumaa	نُصِرْتُمَا
You all were helped	تم سب مدد کی گئیں	Nusirtunna	نُصِرْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I was helped	میں مدد کیا گیا	Nusirtu	نُصِرْتُ
We were helped	ہم مدد کیے گئے	Nusirnaa	نُصِرْنَا



## تصريف فعل ماضى "معروف منفى"



3rd Person Male		غائب مذکر	
He didn't do	اس نے نہیں کیا	Maa Fa-a-la	مَا فَعَلَ
They both didn't do	ان دونوں نے نہیں کیا	Maa Fa-a-laa	مَا فَعَلَا
They all didn't do	ان سب نے نہیں کیا	Maa Fa-a-loo	مَا فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She didn't do	اس نے نہیں کیا	Maa Fa-a-lat	مَا فَعَلَتْ
They both didn't do	ان دونوں نے نہیں کیا	Maa Fa-a-la-taa	مَا فَعَلْتَا
They all didn't do	ان سب نے نہیں کیا	Maa Fa-al-na	مَا فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You didn't do	تم نے نہیں کیا	Maa Fa-al-ta	مَا فَعَلْتَ
You both didn't do	تم دونوں نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tu-maa	مَا فَعَلْتُمَا
You all didn't do	تم سب نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tum	مَا فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You didn't do	تم نے نہیں کیا	Maa Fa-al-ti	مَا فَعَلْتِ
You both didn't do	تم دونوں نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tumaa	مَا فَعَلْتُمَا
You all didn't do	تم سب نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tunna	مَا فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I didn't do	میں نے نہیں کیا	Maa Fa-al-tu	مَا فَعَلْتُ
We didn't do	ہم نے نہیں کیا	Maa Fa-al-naa	مَا فَعَلْنَا







## تصرف فعل ماضی ”مجہول منفی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He was not helped	وہ مدد نہیں کیا گیا	Maa Nusira	مَا نُصِرَ
They both were not helped	وہ دونوں مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusiraa	مَا نُصِرَا
They all were not helped	وہ سب مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusiroo	مَا نُصِرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She was not helped	وہ مدد نہیں کی گئی	Maa Nusirat	مَا نُصِرَتْ
They both were not helped	وہ دونوں مدد نہیں کی گئیں	Maa Nusirataa	مَا نُصِرَتَا
They all were not helped	وہ سب مدد نہیں کی گئیں	Maa Nusirna	مَا نُصِرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You were not helped	تو مدد نہیں کیا گیا	Maa Nusirta	مَا نُصِرْتَ
You both were not helped	تم دونوں مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusirtumaa	مَا نُصِرْتُمَا
You all were not helped	تم سب مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusirtum	مَا نُصِرْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You were not helped	تو مدد نہیں کی گئی	Maa Nusirti	مَا نُصِرْتِ
You both were not helped	تم دونوں مدد نہیں کی گئیں	Maa Nusirtumaa	مَا نُصِرْتُمَا
You all were not helped	تم سب مدد نہیں کی گئیں	Maa Nusirtunna	مَا نُصِرْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I was not helped	میں مدد نہیں کیا گیا	Maa Nusirtu	مَا نُصِرْتُ
We were not helped	ہم مدد نہیں کیے گئے	Maa Nusirnaa	مَا نُصِرْنَا





## تصريف فعل ماضى "معروف ب قد"

3rd Person Male		غائب مذکر	
Certainly he did	تحقیق اس نے کیا	Qad Fa-a-la	قَدْ فَعَلَ
Certainly they both did	تحقیق ان دونوں نے کیا	Qad Fa-a-laa	قَدْ فَعَلَا
Certainly they all did	تحقیق ان سب نے کیا	Qad Fa-a-loo	قَدْ فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Certainly she did	تحقیق اس نے کیا	Qad Fa-a-lat	قَدْ فَعَلَتْ
Certainly they both did	تحقیق ان دونوں نے کیا	Qad Fa-a-la-taa	قَدْ فَعَلَتَا
Certainly they all did	تحقیق ان سب نے کیا	Qad Fa-al-na	قَدْ فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Certainly you did	تحقیق تم نے کیا	Qad Fa-al-ta	قَدْ فَعَلْتَ
Certainly you both did	تحقیق تم دونوں نے کیا	Qad Fa-al-tu-maa	قَدْ فَعَلْتُمَا
Certainly you all did	تحقیق تم سب نے کیا	Qad Fa-al-tum	قَدْ فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Certainly you did	تحقیق تم نے کیا	Qad Fa-al-ti	قَدْ فَعَلْتِ
Certainly you both did	تحقیق تم دونوں نے کیا	Qad Fa-al-tumaa	قَدْ فَعَلْتُمَا
Certainly you all did	تحقیق تم سب نے کیا	Qad Fa-al-tunna	قَدْ فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Certainly I did	تحقیق میں نے کیا	Qad Fa-al-tu	قَدْ فَعَلْتُ
Certainly we did	تحقیق ہم نے کیا	Qad Fa-al-naa	قَدْ فَعَلْنَا





## تصريف فعل ماضى "مجهول ب قد"

3rd Person Male		غائب مذکر	
Certainly he was helped	تحقیق وہ مدد کیا گیا	Qad Nusira	قَدْ نُسِرَا
Certainly they both were helped	تحقیق وہ دونوں مدد کیے گئے	Qad Nusiraa	قَدْ نُسِرَا
Certainly they all were helped	تحقیق وہ سب مدد کیے گئے	Qad Nusiroo	قَدْ نُسِرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Certainly she was helped	تحقیق وہ مدد کی گئی	Qad Nusirat	قَدْ نُسِرَتْ
Certainly they both were helped	تحقیق وہ دونوں مدد کی گئیں	Qad Nusirataa	قَدْ نُسِرَتَا
Certainly they all were helped	تحقیق وہ سب مدد کی گئیں	Qad Nusirna	قَدْ نُسِرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Certainly you were helped	تحقیق تو مدد کیا گیا	Qad Nusirta	قَدْ نُسِرْتَ
Certainly you both were helped	تحقیق تم دونوں مدد کیے گئے	Qad Nusirtumaa	قَدْ نُسِرْتُمَا
Certainly you all were helped	تحقیق تم سب مدد کیے گئے	Qad Nusirtum	قَدْ نُسِرْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Certainly you were helped	تحقیق تو مدد کی گئی	Qad Nusirti	قَدْ نُسِرْتِ
Certainly you both were helped	تحقیق تم دونوں مدد کی گئیں	Qad Nusirtumaa	قَدْ نُسِرْتُمَا
Certainly you all were helped	تحقیق تم سب مدد کی گئیں	Qad Nusirtunna	قَدْ نُسِرْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Certainly I was helped	تحقیق میں مدد کیا گیا	Qad Nusirtu	قَدْ نُسِرْتُ
Certainly we were helped	تحقیق ہم مدد کیے گئے	Qad Nusirnaa	قَدْ نُسِرْنَا





## تصريف فعل ماضى "معروف ب كان"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He had done it	اس نے کیا تھا	Kaana Fa-a-la	كَانَ فَعَلَ
They both had done it	ان دونوں نے کیا تھا	Kaanaa Fa-a-laa	كَانَا فَعَلَا
They all had done it	ان سب نے کیا تھا	Kaanoo Fa-a-loo	كَانُوا فَعَلُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She had done it	اس نے کیا تھا	Kaanat Fa-a-lat	كَانَتْ فَعَلَتْ
They both had done it	ان دونوں نے کیا تھا	Kaanataa Fa-a-la-taa	كَانَتَا فَعَلَتَا
They all had done it	ان سب نے کیا تھا	Kaana Fa-al-na	كَانْنَ فَعَلْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You had done it	تم نے کیا تھا	Kunta Fa-al-ta	كُنْتَ فَعَلْتَ
You both had done it	تم دونوں نے کیا تھا	Kuntumaa Fa-al-tu-maa	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا
You all had done it	تم سب نے کیا تھا	Kuntum Fa-al-tum	كُنْتُمْ فَعَلْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You had done it	تم نے کیا تھا	Kunti Fa-al-ti	كُنْتِ فَعَلْتِ
You both had done it	تم دونوں نے کیا تھا	Kuntumaa Fa-al-tumaa	كُنْتُمَا فَعَلْتُمَا
You all had done it	تم سب نے کیا تھا	Kuntunna Fa-al-tunna	كُنْتُنَّ فَعَلْتُنَّ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I had done it	میں نے کیا تھا	Kuntu Fa-al-tu	كُنْتُ فَعَلْتُ
We had done it	ہم نے کیا تھا	Kunnaa Fa-al-naa	كُنَّا فَعَلْنَا



## تصریف فعل ماضی ”مجهول ب کان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He had been helped	وہ مدد کیا گیا تھا	Kaana Nusira	كَانَ نُصِرَ
They both had been helped	وہ دونوں مدد کیے گئے تھے	Kaanaa Nusiraa	كَانَا نُصِرَا
They all had been helped	وہ سب مدد کیے گئے تھے	Kaanoo Nusiroo	كَانُوا نُصِرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She had been helped	وہ مدد کی گئی تھی	Kaanat Nusirat	كَانَتْ نُصِرَتْ
They both had been helped	وہ دونوں مدد کی گئیں تھیں	Kaanataa Nusirataa	كَانَتَا نُصِرَتَا
They all had been helped	وہ سب مدد کی گئی تھیں	Kunna Nusirna	كَانَ نُصِرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You had been helped	تو مدد کیا گیا تھا	Kunta Nusirta	كُنْتَ نُصِرْتَ
You both had been helped	تم دونوں مدد کیے گئے تھے	Kuntumaa Nusirtumaa	كُنْتُمَا نُصِرْتُمَا
You all had been helped	تم سب مدد کیے گئے تھے	Kuntum Nusirtum	كُنْتُمْ نُصِرْتُمْ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You had been helped	تو مدد کی گئی تھی	Kunti Nusirti	كُنْتِ نُصِرْتِ
You both had been helped	تم دونوں مدد کی گئیں تھیں	Kuntumaa Nusirtumaa	كُنْتُمَا نُصِرْتُمَا
You all had been helped	تم سب مدد کی گئی تھیں	Kuntunna Nusirtunna	كُنْتُنَّ نُصِرْتُنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I had been helped	میں مدد کیا گیا تھا	Kuntu Nusirtu	كُنْتُ نُصِرْتُ
We had been helped	ہم مدد کیے گئے تھے	Kunnaa Nusirnaa	كُنَّا نُصِرْنَا





II - فعل کی قسمیں

01

II - Fel ki qisme - II - Types of verb

المضارع

Mudaare - Present and Future tense



Present/ Future tense	Muzaare'	مضارع
<p>تعریف: مضارع وہ فعل ہے جس سے کام کا کبھی تو زمانہ حال میں اور کبھی زمانہ آئندہ میں ہونا پایا جائے</p> <p><b>Tareef:</b> Muzaare' wo fel hai jis se kaam ka kabhi to zamane haal me aur kabhi zamane aaenda me hona paya jaye.</p> <p><b>Definition:</b> Those verbs which indicate present and future tense are called Muzaare'</p>	<p>یَفْعَلُ Yaf-a-lu</p> <p>Wo karta hai ya kare ga he will do or he will be doing</p>	

فعل مضارع تین اوزان پر آتا ہے۔ یَفْعَلُ، یَفْعِلُ، یَفْعُلُ (یعنی حرفِ عین پر تغیر واقع ہوتا ہے)

Fel maazi teen/3 tarha se aata hai. Yaf-alu, Yaf-ilu, Yaf-ulu

(Yani huruf A'yeen per tageer waqqye hota hai)

<p>یَسْمَعُ (وہ سنتا ہے یا سنے گا) Wo suntan hai ya sune ga</p>	<p>یَشْرَبُ (وہ پیتا ہے یا پیے گا) Wo pita hai ya piye ga</p>	<p>یَفْتَحُ (وہ کھولتا ہے یا کھولے گا) Wo kholta hai ya khole ga</p>	<p>یَذْهَبُ (وہ جاتا ہے یا جائے گا) Wo jata hai ya jaye ga</p>	یَفْعَلُ کی مثالیں
<p>یَضْرِبُ (وہ مارتا ہے یا مارے گا) Wo maarta hai ya mare ga</p>	<p>یَغْسِلُ (وہ دھوتا ہے یا دھوئے گا) Wo dhoota hai ya dhooaye ga</p>	<p>یَحْسِبُ (وہ گمان کرتا ہے یا کرے گا) Wo gumaan karta hai ya kare ga</p>	<p>یَجْلِسُ (وہ بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا) Wo baithta hai ya baithega</p>	یَفْعِلُ کی مثالیں
<p>یَكْرُمُ (وہ عزت کرتا ہے یا کرے گا) Wo izzat karta hai yak are ga</p>	<p>یَنْصُرُ (وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا) Wo madad karta hai ya kare ga</p>	<p>یَأْكُلُ (وہ کھاتا ہے یا کھائے گا) Wo khata hai ya khaye ga</p>	<p>یَدْخُلُ (وہ اندر آتا ہے یا آئے گا) Wo andar aata hai ya aaye ga</p>	یَفْعُلُ کی مثالیں



## مضارع بنانے کا طریقہ

## Muzaar'e banane ka tariqa

## Method of making Verb of present/ future

مضارع ماضی سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں (ی، ت، آ، ن) میں سے ایک حرف اس طرح لگایا جاتا ہے:

ی چار صیغوں کے پہلے آتی ہے، تین مذکر غائب اور ایک جمع مؤنث غائب۔

ت آٹھ صیغوں کے پہلے آتی ہے، دو واحد و تثنیہ مؤنث غائب اور چھ مذکر و مؤنث حاضر۔

آ ایک صیغہ کے پہلے آتا ہے یعنی واحد متکلم۔

ن ایک صیغہ کے پہلے آتا ہے یعنی جمع متکلم۔

Muzaar'e maazi se banta hai. Uske banana ka tariqa ye hai ke maazi ke shuru mai

( ی ، ت ، آ ، ن ) mai se ek huruf iss tarah lagay jata hai:

ی chaar 4 seghon ke pehle aati hai, 3 muzakkar gayab aur ek jama' muannas gayeb.

ت Aath (8) seghon ke pehle aati hai, 2 wahid wa tasniya muannas ghayeb aur 6 muzakkar wa muannas hazir.

آ Ek segha ke pehle aata hai yani wahid mutakalim.

ن Ek segha ke pehle aata hai yani jama' mutakallim.

Verb (Muzaare) is made from its past (Maazi) by adding one of the four letters before it

( ی ، ت ، آ ، ن )

ی (Yaa): comes before 4 verb, 3 for 3rd person male and one for 3rd person female plural

ت (Taa): comes before 8 verbs, 2 for singular, dual and female 3rd person and 6 for 2nd person male and female.

آ (Alif): comes before 1st person Singular

ن (Noon) : comes before 1st person plural

نوٹ: (ی، ت، آ، ن) پر زبر آتا ہے اور اس کے بعد کا حرف "ف" مجزوم ہوتا ہے۔

Note: ( ی ، ت ، آ ، ن ) per zabar aata hai aur uske ba'ad ka huruf "Fa" majzoom hota hai.

Note: In the verb of present tense, the letters (ی، ت، آ، ن) has zabar and "Fa" kalima has a jazam on it





مضارع کا آخری حرف پانچ / ۵ جگہ مرفوع ہوتا ہے؛ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم۔  
چار تثنیوں کے آخر میں نونِ مکسورہ آتا ہے۔

تین جگہ نونِ مفتوح زیادہ کیا جاتا ہے۔ اس کو نونِ اعرابی کہا جاتا ہے۔ (جمع مذکر غائب وحاضر اور واحد مؤنث حاضر میں)  
جمع مؤنث غائب وحاضر کے آخر میں بھی دو جگہ نونِ مفتوح آتا ہے مگر اس کو نونِ ضمیر کہتے ہیں یہ ضمیر فاعل ہے اور کبھی ساقط نہیں ہوتی۔

Muzaar'e ka akhri harf aakhir paanch/5 jaga marfoo' hota hai; Wahid muzakkar ghayab, wahid muannas gayeb, wahid muzakkar hazir, wahid mutakallim aur jama' mutakallim.

Chaar tasniyaon ke aakhir mai noon e maksoorah.

Teen jaga (jama' muzakkar gayeb wa hazir aur wahid muannas hazir mai) noon e maftooh ziyada kiya jata hai. Isko noon Arabi kaha jata hai.

Jama' muannas ghayab wa hazir ke aakhir me bhi do jagah noon maftooh aata hai magar usko noon zameer kehte hai ye zameer fel hai aur kabhi saaqit nahi hoti.

Last letter of muzare has pesh in 5 places on the conjugation (3rd person singular male/ 2nd person female and 1st persons)

The declinable noon at the end of four dual verbs

In 3 places, 3rd person male and 2nd person male and 3rd person female, declinable noon comes with zabar

In 3rd person and 2nd person plural female noon comes with zabar called as noon of zameer and it is faa'el (doer of action) and is always fixed ( indeclinable ).

نوٹ: مضارع کا تیسرا حرف کبھی مفتوح ہوتا ہے جیسے یَفْعَلُ اور کبھی مکسور جیسے یَفْعِلُ اور کبھی مضموم جیسے یَفْعُلُ۔

Note: Muzaare' ka teesra hurf kabhi muftooh hota hai jayse Yaf-alu aur kabhi maksoora jaise Yaf-ilu aur kabhi mazmoom jaise Yaf-olu.

Note: Sometime in present tense the third letter comes with zair or zabar or pesh sometimes.



## تصريف فعل مضارع "معروف"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will help or will be helping	وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا	Yansuru	يَنْصُرُ
They both will help or will be helping	وہ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے	Yansuraani	يَنْصُرَانِ
They all will help or will be helping	وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے	Yansuroona	يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will help or will be helping	وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی	Tansuru	تَنْصُرُ
They both will help or will be helping	وہ دونوں مدد کرتی ہیں یا کریں گی	Tansuraani	تَنْصُرَانِ
They all will help or will be helping	وہ سب مدد کرتی ہیں یا کریں گی	Yansurna	يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will help or will be helping	تو مدد کرتا ہے یا کرے گا	Tansuru	تَنْصُرُ
You both will help or will be helping	تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے	Tansuraani	تَنْصُرَانِ
You all will help or will be helping	تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے	Tansuroona	تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will help or will be helping	تو مدد کرتی ہے یا کرے گی	Tansureena	تَنْصُرِينَ
You both will help or will be helping	تم دونوں مدد کرتی ہو یا کرو گی	Tansuraani	تَنْصُرَانِ
You all will help or will be helping	تم سب مدد کرتی ہو یا کرو گی	Tansurna	تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I will help or I will be helping	میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا	Ansuru	أَنْصُرُ
We will help or we will be helping	ہم مدد کرتے ہیں یا کریں گے	Nansuru	نَنْصُرُ



## تصريف فعل مضارع ”مجهول“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is being helped or will be helped	وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا	Yunsaru	يُنصَرُ
They both are being helped or will be helped	وہ دونوں مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	Yunsaraani	يُنصَرَانِ
They all are being helped or will be helped	وہ سب مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	Yunsaroonā	يُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is being helped or will be helped	وہ مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی	Tunsaru	تُنصَرُ
They both are being helped or will be helped	وہ دونوں مدد کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی	Tunsaraani	تُنصَرَانِ
They all are being helped or will be helped	وہ سب مدد کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی	Yunsarna	يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are being helped or will be helped	تو مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا	Tunsaru	تُنصَرُ
You both are being helped or will be helped	تم دونوں مدد کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے	Tunsaraani	تُنصَرَانِ
You all are being helped or will be helped	تم سب مدد کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے	Tunsaroonā	تُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are being helped or will be helped	تو مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی	Tunsareena	تُنصَرِينَ
You both are being helped or will be helped	تم دونوں مدد کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی	Tunsaraani	تُنصَرَانِ
You all are being helped or will be helped	تم سب مدد کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی	Tunsarna	تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I am being helped or will be helped	میں مدد کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا	Unsaru	أُنصَرُ
We are being helped or will be helped	ہم مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	Nunsaru	نُنصَرُ



## تصريف فعل مضارع "معروف منفى"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is not helping or will not help	وہ مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا	Laa Yansuru	لَا يَنْصُرُ
They both are not helping or will not help	وہ دونوں مدد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے	Laa Yansuraani	لَا يَنْصُرَانِ
They all are not helping or will not help	وہ سب مدد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے	Laa Yansuroona	لَا يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is not helping or will not help	وہ مدد نہیں کرتی ہے یا نہیں کرے گی	Laa Tansuru	لَا تَنْصُرُ
They both are not helping or will not help	وہ دونوں مدد نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی	Laa Tansuraani	لَا تَنْصُرَانِ
They all are not helping or will not help	وہ سب مدد نہیں کرتی ہیں یا نہیں کریں گی	Laa Yansurna	لَا تَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are not helping or will not help	تو مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا	Laa Tansuru	لَا تَنْصُرُ
You both are not helping or will not help	تم دونوں مدد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے	Laa Tansuraani	لَا تَنْصُرَانِ
You all are not helping or will not help	تم سب مدد نہیں کرتے ہو یا نہیں کرو گے	Laa Tansuroona	لَا تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are not helping or will not help	تو مدد نہیں کی کرتی ہے یا نہیں کرے گی	Laa Tansureena	لَا تَنْصُرِينَ
You both are not helping or will not help	تم دونوں مدد نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی	Laa Tansuraani	لَا تَنْصُرَانِ
You all are not helping or will not help	تم سب مدد نہیں کرتی ہو یا نہیں کرو گی	Laa Tansurna	لَا تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I am not helping or will not help	میں مدد نہیں کرتا ہوں یا نہیں کروں گا	Laa Ansuru	لَا اَنْصُرُ
We are not helping or will not help	ہم مدد نہیں کرتے ہیں یا نہیں کریں گے	Laa Nansuru	لَا نَنْصُرُ





## تصریف فعل مضارع ”مجهول منفی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He is not being helped or will not be helped	وہ مدد نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا	Laa Yunsaru	لَا يُنصَرُ
They both are not being helped or will not be helped	وہ دونوں مدد نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے	Laa Yunsaraani	لَا يُنصَرَانِ
They all are not being helped or will not be helped	وہ سب مدد نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے	Laa Yunsaroonaa	لَا يُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She is not being helped or will not be helped	وہ مدد نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جائے گی	Laa Tunsaru	لَا تُنصَرُ
They both are not being helped or will not be helped	وہ دونوں مدد نہیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی	Laa Tunsaraani	لَا تُنصَرَانِ
They all are not being helped or will not be helped	وہ سب مدد نہیں کی جاتی ہیں یا نہیں کی جائیں گی	Laa Yunsarna	لَا يُنصَرُونَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You are not being helped or will not be helped	تو مدد نہیں کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جائے گا	Laa Tunsaru	لَا تُنصَرُ
You both are not being helped or will not be helped	تم دونوں مدد نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے	Laa Tunsaraani	لَا تُنصَرَانِ
You all are not being helped or will not be helped	تم سب مدد نہیں کیے جاتے ہو یا نہیں کیے جاؤ گے	Laa Tunsaroonaa	لَا تُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You are not being helped or will not be helped	تو مدد نہیں کی جاتی ہے یا نہیں کی جائے گی	Laa Tunsareena	لَا تُنصَرِينَ
You both are not being helped or will not be helped	تم دونوں مدد نہیں کی جاتی ہو یا نہیں کی جاؤ گی	Laa Tunsaraani	لَا تُنصَرَانِ
You all are not being helped or will not be helped	تم سب مدد نہیں کی جاتی ہو یا نہیں کی جاؤ گی	Laa Tunsarna	لَا تُنصَرُونَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I am not being helped or will not be helped	میں مدد نہیں کیا جاتا ہوں یا نہیں کیا جاؤں گا	Laa Unsaru	لَا أُنصَرُ
We are not being helped or will not be helped	ہم مدد نہیں کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جائیں گے	Laa Nunsaru	لَا نُنصَرُ





## تصريف فعل مضارع "معروف ب كان"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He used to help	وہ مدد کرتا تھا	Kaana Yansuru	كَانَ يَنْصُرُ
They both used to help	وہ دونوں مدد کرتے تھے	Kaanaa Yansuraani	كَانَا يَنْصُرَانِ
They all used to help	وہ سب مدد کرتے تھے	Kaanoo Yansuroona	كَانُوا يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She used to help	وہ مدد کرتی تھی	Kaanat Tansuru	كَانَتْ تَنْصُرُ
They both used to help	وہ دونوں مدد کرتی تھیں	Kaanataa Tansuraani	كَانَتَا تَنْصُرَانِ
They all used to help	وہ سب مدد کرتی تھیں	Kunna Yansurna	كَانَ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You used to help	تو مدد کرتا تھا	Kunta Tansuru	كُنْتَ تَنْصُرُ
You both used to help	تم دونوں مدد کرتے تھے	Kuntumaa Tansuraani	كُنْتُمَا تَنْصُرَانِ
You all used to help	تم سب مدد کرتے تھے	Kuntum Tansuroona	كُنْتُمْ تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You used to help	تو مدد کرتی تھی	Kunti Tansureena	كُنْتِ تَنْصُرِينَ
You both used to help	تم دونوں مدد کرتی تھیں	Kuntumaa Tansuraani	كُنْتُمَا تَنْصُرَانِ
You all used to help	تم سب مدد کرتی تھیں	Kuntunna Tansurna	كُنْتُنَّ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I used to help	میں مدد کرتا تھا	Kuntu Ansuru	كُنْتُ أَنْصُرُ
We used to help	ہم مدد کرتے تھے	Kunna Nansuru	كُنَّا نَنْصُرُ



## تصريف فعل مضارع ”مجهول ب كان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He was being helped	وہ مدد کیا جاتا تھا	Kaana Yunsaru	كَانَ يُنصَّرُ
They both were being helped	وہ دونوں مدد کیے جاتے تھے	Kaanaa Yunsaraani	كَانَا يُنصَّرَانِ
They all were being helped	وہ سب مدد کیے جاتے تھے	Kaanoo Yunsaroon	كَانُوا يُنصَّرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She was being helped	وہ مدد کی جاتی تھی	Kaanat Tunsaru	كَانَتْ تُنصَّرُ
They both were being helped	وہ دونوں مدد کی جاتی تھیں	Kaanataa Tunsaraani	كَانَتَا تُنصَّرَانِ
They all were being helped	وہ سب مدد کی جاتی تھیں	Kunna Yunsarna	كَانَ يُنصَّرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You were being helped	تو مدد کیا جاتا تھا	Kunta Tunsaru	كُنْتَ تُنصَّرُ
You both were being helped	تم دونوں مدد کیے جاتے تھے	Kuntumaa Tunsaraani	كُنْتُمَا تُنصَّرَانِ
You all were being helped	تم سب مدد کیے جاتے تھے	Kuntum Tunsaroon	كُنْتُمْ تُنصَّرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You were being helped	تو مدد کی جاتی تھی	Kunti Tunsareena	كُنْتِ تُنصَّرِينَ
You both were being helped	تم دونوں مدد کی جاتی تھیں	Kuntumaa Tunsaraani	كُنْتُمَا تُنصَّرَانِ
You all were being helped	تم سب مدد کی جاتی تھیں	Kuntunna Tunsarna	كُنْتُنَّ تُنصَّرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I was being helped	میں مدد کیا جاتا تھا	Kuntu Unsaru	كُنْتُ أُنصَّرُ
We were being helped	ہم مدد کیے جاتے تھے	Kunnaa Nunsaru	كُنَّا نُنصَّرُ



## تصريف فعل مضارع "معروف بلام مفتوح"

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he will help or will be helping	البتہ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا	La-Yansuru	لَيَنْصُرُ
However they both will help or will be helping	البتہ وہ دونوں مدد کرتے ہیں یا کریں گے	La-Yansuraani	لَيَنْصُرَانِ
However they all will help or will be helping	البتہ وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے	La-Yansuroona	لَيَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she will help or will be helping	البتہ وہ مدد کرتی ہے یا کرے گی	La-Tansuru	لَتَنْصُرُ
However they both will help or will be helping	البتہ وہ دونوں مدد کرتی ہیں یا کریں گی	La-Tansuraani	لَتَنْصُرَانِ
However they all will help or will be helping	البتہ وہ سب مدد کرتی ہیں یا کریں گی	La-Yansurna	لَيَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you will help or will be helping	البتہ تو مدد کرتا ہے یا کرے گا	La-Tansuru	لَتَنْصُرُ
However you both will help or will be helping	البتہ تم دونوں مدد کرتے ہو یا کرو گے	La-Tansuraani	لَتَنْصُرَانِ
However you all will help or will be helping	البتہ تم سب مدد کرتے ہو یا کرو گے	La-Tansuroona	لَتَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you will help or will be helping	البتہ تو مدد کرتی ہے یا کرے گی	La-Tansureena	لَتَنْصُرِينَ
However you both will help or will be helping	البتہ تم دونوں مدد کرتی ہو یا کرو گی	La-Tansuraani	لَتَنْصُرَانِ
However you all will help or will be helping	البتہ تم سب مدد کرتی ہو یا کرو گی	La-Tansurna	لَتَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
However I will help or will be helping	البتہ میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا	La-Ansuru	لَاَنْصُرُ
However we will help or will be helping	البتہ ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے	La-Nansuru	لَنْصُرُ





## تصريف فعل مضارع ”مجهول بلام مفتوح“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he is being helped or will be helped	البتہ وہ مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا	La-Yunsaro	لَيُنْصَرُ
However they both are being helped or will be helped	البتہ وہ دونوں مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	La-Yunsaraani	لَيُنْصَرَانِ
However they all are being helped or will be helped	البتہ وہ سب مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	La-Yunsaroon	لَيُنْصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she is being helped or will be helped	البتہ وہ مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی	La-Tunsaru	لَتُنْصَرُ
However they both are being helped or will be helped	البتہ وہ دونوں مدد کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی	La-Tunsaraani	لَتُنْصَرَانِ
However they all are being helped or will be helped	البتہ وہ سب مدد کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی	La-Yunsarna	لَيُنْصَرُونَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you are being helped or will be helped	البتہ تو مدد کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا	La-Tunsaru	لَتُنْصَرُ
However you both are being helped or will be helped	البتہ تم دونوں مدد کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے	La-Tunsaraani	لَتُنْصَرَانِ
However you all are being helped or will be helped	البتہ تم سب مدد کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے	La-Tunsaroon	لَتُنْصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you are being helped or will be helped	البتہ تو مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی	La-Tunsareena	لَتُنْصَرِينَ
However you both are being helped or will be helped	البتہ تم دونوں مدد کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی	La-Tunsaraani	لَتُنْصَرَانِ
However you all are being helped or will be helped	البتہ تم سب مدد کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی	La-Tunsarna	لَتُنْصَرُونَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I am being helped or will be helped	البتہ میں مدد کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا	La-Unsaru	لَاُنْصَرُ
However we are being helped or will be helped	البتہ ہم سب مدد کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے	La-Nunsaru	لَنُنْصَرُ



## تصريف فعل مضارع "معروف ب سين"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will help soon	وہ عنقریب مدد کرے گا	Sa-Yansuru	سَيَنْصُرُ
They both will help soon	وہ دونوں عنقریب مدد کریں گے	Sa-Yansuraani	سَيَنْصُرَانِ
They all will help soon	وہ سب عنقریب مدد کریں گے	Sa-Yansuroona	سَيَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will help soon	وہ عنقریب مدد کرے گی	Sa-Tansuru	سَتَنْصُرُ
They both will help soon	وہ دونوں عنقریب مدد کریں گی	Sa-Tansuraani	سَتَنْصُرَانِ
They all will help soon	وہ سب عنقریب مدد کریں گی	Sa-Yansurna	سَيَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will help soon	تو عنقریب مدد کرے گا	Sa-Tansuru	سَتَنْصُرُ
You both will help soon	تم دونوں عنقریب مدد کرو گے	Sa-Tansuraani	سَتَنْصُرَانِ
You all will help soon	تم سب عنقریب مدد کرو گے	Sa-Tansuroona	سَتَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will help soon	تو عنقریب مدد کرے گی	Sa-Tansureena	سَتَنْصُرِينَ
You both will help soon	تم دونوں عنقریب مدد کرو گی	Sa-Tansuraani	سَتَنْصُرَانِ
You all will help soon	تم سب عنقریب مدد کرو گی	Sa-Tansurna	سَتَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will help soon	میں عنقریب مدد کروں گا	Sa-Ansuru	سَأَنْصُرُ
We will help soon	ہم سب عنقریب مدد کریں گے	Sa-Nansuru	سَنْصُرُ



## تصریف فعل مضارع ”مجہول ب سین“

3rd Person Male		غائب مذکر	
Soon he will be helped	وہ عنقریب مدد کیا جائے گا	Sa-Yunsaru	سَيُنْصَرُ
Soon they both will be helped	وہ دونوں عنقریب مدد کیے جائیں گے	Sa-Yunsaraani	سَيُنْصَرَانِ
Soon they all will be helped	وہ سب عنقریب مدد کیے جائیں گے	Sa-Yunsaroon	سَيُنْصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Soon she will be helped	وہ عنقریب مدد کی جائے گی	Sa-Tunsaru	سَتُنْصَرُ
Soon they both will be helped	وہ دونوں عنقریب مدد کی جائیں گی	Sa-Tunsaraani	سَتُنْصَرَانِ
Soon they all will be helped	وہ سب عنقریب مدد کی جائیں گی	Sa-Yunsarna	سَيُنْصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Soon you will be helped	تو عنقریب مدد کیا جائے گا	Sa-Tunsaru	سَتُنْصَرُ
Soon you both will be helped	تم دونوں عنقریب مدد کیے جاؤ گے	Sa-Tunsaraani	سَتُنْصَرَانِ
Soon you all will be helped	تم سب عنقریب مدد کیے جاؤ گے	Sa-Tunsaroon	سَتُنْصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Soon you will be helped	تو عنقریب مدد کی جائے گی	Sa-Tunsareena	سَتُنْصَرِينَ
Soon you both will be helped	تم دونوں عنقریب مدد کی جاؤ گی	Sa-Tunsaraani	سَتُنْصَرَانِ
Soon you all will be helped	تم سب عنقریب مدد کی جاؤ گی	Sa-Tunsarna	سَتُنْصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Soon I will be helped	میں عنقریب مدد کیا جاؤں گا	Sa-Unsaru	سَأُنْصَرُ
Soon we will be helped	ہم عنقریب مدد کیے جائیں گے	Sa-Nunsaru	سَنُنْصَرُ



## تصريف فعل مضارع ”معروف ب سوف“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will help after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کرے گا	Saufa-Yansuru	سَوْفَ يَنْصُرُ
They both will help after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کریں گے	Saufa-Yansuraani	سَوْفَ يَنْصُرَانِ
They all will help after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کریں گے	Saufa-Yansuroona	سَوْفَ يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will help after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کرے گی	Saufa-Tansuru	سَوْفَ تَنْصُرُ
They both will help after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کریں گی	Saufa-Tansuraani	سَوْفَ تَنْصُرَانِ
They all will help after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کریں گی	Saufa-Yansurna	سَوْفَ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will help after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کرے گا	Saufa-Tansuru	سَوْفَ تَنْصُرُ
You both will help after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کرو گے	Saufa-Tansuraani	سَوْفَ تَنْصُرَانِ
You all will help after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کرو گے	Saufa-Tansuroona	سَوْفَ تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will help after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کرے گی	Saufa-Tansureena	سَوْفَ تَنْصُرِينَ
You both will help after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کرو گی	Saufa-Tansuraani	سَوْفَ تَنْصُرَانِ
You all will help after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کرو گی	Saufa-Tansurna	سَوْفَ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will help after some time	میں تھوڑی دیر بعد مدد کروں گا	Saufa-Ansuru	سَوْفَ أَنْصُرُ
We will help after some time	ہم تھوڑی دیر بعد مدد کریں گے	Saufa-Nansuru	سَوْفَ نَنْصُرُ



## تصریف فعل مضارع ”مجهول ب سوف“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will be helped after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کیا جائے گا	Saufa-Yunsaru	سَوْفَ يُنصَّرُ
They both will be helped after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Yunsaraani	سَوْفَ يُنصَّرَانِ
They all will be helped after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Yunsaroon	سَوْفَ يُنصَّرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will be helped after some time	وہ تھوڑی دیر بعد مدد کی جائے گی	Saufa-Tunsaru	سَوْفَ تُنصَّرُ
They both will be helped after some time	وہ دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Tunsaraani	سَوْفَ تُنصَّرَانِ
They all will be helped after some time	وہ سب تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Yunsarna	سَوْفَ يُنصَّرُونَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will be helped after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کیا جائے گا	Saufa-Tunsaru	سَوْفَ تُنصَّرُ
You both will be helped after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کیے جاؤ گے	Saufa-Tunsaraani	سَوْفَ تُنصَّرَانِ
You all will be helped after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کیے جاؤ گے	Saufa-Tunsaroon	سَوْفَ تُنصَّرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will be helped after some time	تو تھوڑی دیر بعد مدد کی جائے گی	Saufa-Tunsareena	سَوْفَ تُنصَّرِينَ
You both will be helped after some time	تم دونوں تھوڑی دیر بعد مدد کی جاؤ گی	Saufa-Tunsaraani	سَوْفَ تُنصَّرَانِ
You all will be helped after some time	تم سب تھوڑی دیر بعد مدد کی جاؤ گی	Saufa-Tunsarna	سَوْفَ تُنصَّرُونَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will be helped after some time	میں تھوڑی دیر بعد مدد کیا جاؤں گا	Saufa-Unsaru	سَوْفَ أُنصَّرُ
We will be helped after some time	ہم تھوڑی دیر بعد مدد کیے جائیں گے	Saufa-Nunsaru	سَوْفَ نُنصَّرُ





تشریف فعل مضارع ”معروف منصوب ب آن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
That he will help	کہ وہ مدد کرے	An Yansura	أَنْ يَنْصُرَ
That they both will help	کہ وہ دونوں مدد کریں	An Yansuraa	أَنْ يَنْصُرَا
That they all will help	کہ وہ سب مدد کریں	An Yansuroo	أَنْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
That she will help	کہ وہ مدد کرے	An Tansura	أَنْ تَنْصُرَ
That they both will help	کہ وہ دونوں مدد کریں	An Tansuraa	أَنْ تَنْصُرَا
That they all will help	کہ وہ سب مدد کریں	An Yansurna	أَنْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
That you will help	کہ آپ مدد کریں	An Tansura	أَنْ تَنْصُرَ
That you both will help	کہ آپ دونوں مدد کریں	An Tansuraa	أَنْ تَنْصُرَا
That you all will help	کہ آپ سب مدد کریں	An Tansuroo	أَنْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
That you will help	کہ آپ مدد کریں	An Tansuree	أَنْ تَنْصُرِي
That you both will help	کہ آپ دونوں مدد کریں	An Tansuraa	أَنْ تَنْصُرَا
That you all will help	کہ آپ سب مدد کریں	An Tansurna	أَنْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
That i will help	کہ میں مدد کروں	An Ansura	أَنْ أَنْصُرَ
That we will help	کہ ہم مدد کریں	An Nansura	أَنْ نَنْصُرَ



## تصريف فعل مضارع ”مجهول منصوب ب ان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
That he will be helped	کہ وہ مدد کیا جائے	An Yunsara	أَنْ يُنصَرَ
That they both will be helped	کہ وہ دونوں مدد کیے جائیں	An Yunsaraa	أَنْ يُنصَرَآ
That they all will be helped	کہ وہ سب مدد کیے جائیں	An Yunsaroo	أَنْ يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
That she will be helped	کہ وہ عورت مدد کی جائے	An Tunsara	أَنْ تُنصَرَ
That they both will be helped	کہ وہ دو عورتیں مدد کی جائیں	An Tunsaraa	أَنْ تُنصَرَآ
That they all will be helped	کہ وہ سب عورتیں مدد کی جائیں	An Yunsarna	أَنْ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
That you will be helped	کہ آپ مدد کیے جائیں	An Tunsara	أَنْ تُنصَرَ
That you both will be helped	کہ آپ دونوں مدد کیے جائیں	An Tunsaraa	أَنْ تُنصَرَآ
That you all will be helped	کہ آپ سب مدد کیے جائیں	An Tunsaroo	أَنْ تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
That you will be helped	کہ آپ مدد کی جائیں	An Tunsaree	أَنْ تُنصَرِي
That you both will be helped	کہ آپ دونوں مدد کی جائیں	An Tunsaraa	أَنْ تُنصَرَآ
That you all will be helped	کہ آپ سب مدد کی جائیں	An Tunsarna	أَنْ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
That i will be helped	کہ میں مدد کیا جاؤں	An Unsara	أَنْ أُنصَرَ
That we will be helped	کہ ہم مدد کیے جائیں	An Nunsara	أَنْ نُنصَرَ



## تصريف فعل مضارع ”معروف منصوب ب لن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will never help	وہ ہرگز مدد نہیں کرے گا	Lan Yansura	لَنْ يَنْصُرَ
They both will never help	وہ دونوں ہرگز مدد نہیں کریں گے	Lan Yansuraa	لَنْ يَنْصُرَا
They all will never help	وہ سب ہرگز مدد نہیں کریں گے	Lan Yansuroo	لَنْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will never help	وہ ہرگز مدد نہیں کرے گی	Lan Tansura	لَنْ تَنْصُرَ
They both will never help	وہ دونوں ہرگز مدد نہیں کریں گی	Lan Tansuraa	لَنْ تَنْصُرَا
They all will never help	وہ سب ہرگز مدد نہیں کریں گی	Lan Yansurna	لَنْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will never help	تو ہرگز مدد نہیں کرے گا	Lan Tansura	لَنْ تَنْصُرَ
You both will never help	تم دونوں ہرگز مدد نہیں کرو گے	Lan Tansuraa	لَنْ تَنْصُرَا
You all will never help	تم سب ہرگز مدد نہیں کرو گے	Lan Tansuroo	لَنْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will never help	تو ہرگز مدد نہیں کرے گی	Lan Tansuree	لَنْ تَنْصُرِي
You both will never help	تم دونوں ہرگز مدد نہیں کرو گی	Lan Tansuraa	لَنْ تَنْصُرَا
You all will never help	تم سب ہرگز مدد نہیں کرو گی	Lan Tansurna	لَنْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will never help	میں ہرگز مدد نہیں کروں گا	Lan Ansura	لَنْ اَنْصُرَ
We will never help	ہم ہرگز مدد نہیں کریں گے	Lan Nansura	لَنْ نَنْصُرَ





## تصريف فعل مضارع ”مجهول منصوب ب لن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will never be helped	وہ ہرگز مدد نہیں کیا جائے گا	Lan Yunsara	لَنْ يُنصَرَ
They both will never be helped	وہ دونوں ہرگز مدد نہیں کیے جائیں گے	Lan Yunsaraa	لَنْ يُنصَرَآ
They all will never be helped	وہ سب ہرگز مدد نہیں کیے جائیں گے	Lan Yunsaroo	لَنْ يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She will never be helped	وہ ہرگز مدد نہیں کی جائے گی	Lan Tunsara	لَنْ تُنصَرَ
They both will never be helped	وہ دونوں ہرگز مدد نہیں کی جائیں گی	Lan Tunsaraa	لَنْ تُنصَرَآ
They all will never be helped	وہ سب ہرگز مدد نہیں کی جائیں گی	Lan Yunsarna	لَنْ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will never be helped	تو ہرگز مدد نہیں کیا جائے گا	Lan Tunsara	لَنْ تُنصَرَ
You both will never be helped	تم دونوں ہرگز مدد نہیں کیے جاؤ گے	Lan Tunsaraa	لَنْ تُنصَرَآ
You all will never be helped	تم سب ہرگز مدد نہیں کیے جاؤ گے	Lan Tunsaroo	لَنْ تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will never be helped	تو ہرگز مدد نہیں کی جائے گی	Lan Tunsaree	لَنْ تُنصَرِي
You both will never be helped	تم دونوں ہرگز مدد نہیں کی جاؤ گی	Lan Tunsaraa	لَنْ تُنصَرَآ
You all will never be helped	تم سب ہرگز مدد نہیں کی جاؤ گی	Lan Tunsarna	لَنْ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I will never be helped	میں ہرگز مدد نہیں کیا جاؤں گا	Lan Unsara	لَنْ اُنصَرَ
We will never be helped	ہم ہرگز مدد نہیں کیے جائیں گے	Lan Nunsara	لَنْ نُنصَرَ





## تصریف فعل مضارع ”معروف منصوب ب کی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
So that he will help	تاکہ وہ مدد کرے	Kai Yansura	کَیْ یَنْصُرُ
So that they both will help	تاکہ وہ دونوں مدد کریں	Kai Yansuraa	کَیْ یَنْصُرَا
So that they all will help	تاکہ وہ سب مدد کریں	Kai Yansuroo	کَیْ یَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
So that she will help	تاکہ وہ مدد کرے	Kai Tansura	کَیْ تَنْصُرُ
So that they both will help	تاکہ وہ دونوں مدد کریں	Kai Tansuraa	کَیْ تَنْصُرَا
So that they all will help	تاکہ وہ سب مدد کریں	Kai Yansurna	کَیْ یَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
So that you will help	تاکہ تو مدد کرے	Kai Tansura	کَیْ تَنْصُرُ
So that you both will help	تاکہ تم دونوں مدد کرو	Kai Tansuraa	کَیْ تَنْصُرَا
So that you all will help	تاکہ تم سب مدد کرو	Kai Tansuroo	کَیْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
So that you will help	تاکہ تو مدد کرے	Kai Tansuree	کَیْ تَنْصُرِیْ
So that you both will help	تاکہ تم دونوں مدد کرو	Kai Tansuraa	کَیْ تَنْصُرَا
So that you all will help	تاکہ تم سب مدد کرو	Kai Tansurna	کَیْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
So that I will help	تاکہ میں مدد کروں	Kai Ansura	کَیْ اَنْصُرُ
So that we will help	تاکہ ہم مدد کریں	Kai Nansura	کَیْ نَنْصُرُ



## تصریف فعل مضارع ”مجہول منصوب ب کی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
So that he will be helped	تاکہ وہ مدد کیا جائے	Kai Yunsara	کے یُنصَرَ
So that they both will be helped	تاکہ وہ دونوں مدد کیے جائیں	Kai Yunsaraa	کے یُنصَرَا
So that they all will be helped	تاکہ وہ سب مدد کیے جائیں	Kai Yunsaroo	کے یُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
So that she will be helped	تاکہ وہ مدد کی جائے	Kai Tunsara	کے تُنصَرَ
So that they both will be helped	تاکہ وہ دونوں مدد کی جائیں	Kai Tunsaraa	کے تُنصَرَا
So that they all will be helped	تاکہ وہ سب مدد کی جائیں	Kai Yunsarna	کے یُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
So that you will be helped	تاکہ تو مدد کیا جائے	Kai Tunsara	کے تُنصَرَ
So that you both will be helped	تاکہ تم دونوں مدد کیے جاؤ	Kai Tunsaraa	کے تُنصَرَا
So that you all will be helped	تاکہ تم سب مدد کیے جاؤ	Kai Tunsaroo	کے تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
So that you will be helped	تاکہ تو مدد کی جائے	Kai Tunsaree	کے تُنصَرِی
So that you both will be helped	تاکہ تم دونوں مدد کی جاؤ	Kai Tunsaraa	کے تُنصَرَا
So that you all will be helped	تاکہ تم سب مدد کی جاؤ	Kai Tunsarna	کے تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
So that I will be helped	تاکہ میں مدد کیا جاؤں	Kai Unsara	کے اُنصَرَ
So that we will be helped	تاکہ ہم مدد کیے جائیں	Kai Nunsara	کے نُنصَرَ



## تشریف فعل مضارع ”معروف منصوب ب اذن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
Then he will help	تب تو وہ مدد کرے گا	Izan Yansura	إِذْنَ يَنْصُرْ
Then they both will help	تب تو وہ دونوں مدد کریں گے	Izan Yansuraa	إِذْنَ يَنْصُرَا
Then they all will help	تب تو وہ سب مدد کریں گے	Izan Yansuroo	إِذْنَ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Then she will help	تب تو وہ مدد کرے گی	Izan Tansura	إِذْنَ تَنْصُرْ
Then they both will help	تب تو وہ دونوں مدد کریں گی	Izan Tansuraa	إِذْنَ تَنْصُرَا
Then they all will help	تب تو وہ سب مدد کریں گی	Izan Yansurna	إِذْنَ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Then you will help	تب تو مدد کرے گا	Izan Tansura	إِذْنَ تَنْصُرْ
Then you both will help	تب تو تم دونوں مدد کرو گے	Izan Tansuraa	إِذْنَ تَنْصُرَا
Then you all will help	تب تو تم سب مدد کرو گے	Izan Tansuroo	إِذْنَ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Then you will help	تب تو مدد کرے گی	Izan Tansuree	إِذْنَ تَنْصُرِي
Then you both will help	تب تو تم دونوں مدد کرو گی	Izan Tansuraa	إِذْنَ تَنْصُرَا
Then you all will help	تب تو تم سب مدد کرو گی	Izan Tansurna	إِذْنَ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Then I will help	تب تو میں مدد کروں گا	Izan Ansura	إِذْنَ أَنْصُرْ
Then we will help	تب تو ہم مدد کریں گے	Izan Nansura	إِذْنَ نَنْصُرْ



## تصريف فعل مضارع ”مجهول منصوب ب اذن“

3rd Person Male		غائب مذکر	
Then he will be helped	تب تو وہ مدد کیا جائے گا	Izan Yunsara	إِذْنَ يُنْصَرِّ
Then they both will be helped	تب تو وہ دونوں مدد کیے جائیں گے	Izan Yunsaraa	إِذْنَ يُنْصَرِّا
Then they all will be helped	تب تو وہ سب مدد کیے جائیں گے	Izan Yunsaroo	إِذْنَ يُنْصَرِّوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
Then she will be helped	تب تو وہ مدد کی جائے گی	Izan Tunsara	إِذْنَ تُنْصَرِّ
Then they both will be helped	تب تو وہ دونوں مدد کی جائیں گی	Izan Tunsaraa	إِذْنَ تُنْصَرِّا
Then they all will be helped	تب تو وہ سب مدد کی جائیں گی	Izan Yunsarna	إِذْنَ يُنْصَرِّنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
Then you will be helped	تب تو تو مدد کیا جائے گا	Izan Tunsara	إِذْنَ تُنْصَرِّ
Then you both will be helped	تب تو تم دونوں مدد کیے جاؤ گے	Izan Tunsaraa	إِذْنَ تُنْصَرِّا
Then you all will be helped	تب تو تم سب مدد کیے جاؤ گے	Izan Tunsaroo	إِذْنَ تُنْصَرِّوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
Then you will be helped	تب تو تو مدد کی جائے گی	Izan Tunsaree	إِذْنَ تُنْصَرِّى
Then you both will be helped	تب تو تم دونوں مدد کی جاؤ گی	Izan Tunsaraa	إِذْنَ تُنْصَرِّا
Then you all will be helped	تب تو تم سب مدد کی جاؤ گی	Izan Tunsarna	إِذْنَ تُنْصَرِّنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
Then I will be helped	تب تو میں مدد کیا جاؤں گا	Izan Unsara	إِذْنَ أُنْصَرِّ
Then we will be helped	تب تو ہم مدد کیے جائیں گے	Izan Nunsara	إِذْنَ نُنْصَرِّ



## تصريف فعل "مضارع معروف مجزوم ب ان"

3rd Person Male		غائب مذکر	
If he will help	اگر وہ مدد کرے گا	In Yansur	إِنْ يَنْصُرْ
If they both will help	اگر وہ دونوں مدد کریں گے	In Yansuraa	إِنْ يَنْصُرَا
If they all will help	اگر وہ سب مدد کریں گے	In Yansuroo	إِنْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
If she will helps	اگر وہ مدد کرے گی	In Tansur	إِنْ تَنْصُرْ
If they both will help	اگر وہ دونوں مدد کریں گی	In Tansuraa	إِنْ تَنْصُرَا
If they all will help	اگر وہ سب مدد کریں گی	In Yansurna	إِنْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
If you will help	اگر تو مدد کرے گا	In Tansur	إِنْ تَنْصُرْ
If you both will help	اگر تم دونوں مدد کرو گے	In Tansuraa	إِنْ تَنْصُرَا
If you all will help	اگر تم سب مدد کرو گے	In Tansuroo	إِنْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
If you will help	اگر تو مدد کرے گی	In Tansuree	إِنْ تَنْصُرِي
If you both will help	اگر تم دونوں مدد کرو گی	In Tansuraa	إِنْ تَنْصُرَا
If you all will help	اگر تم سب مدد کرو گی	In Tansurna	إِنْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
If I will help	اگر میں مدد کروں گا	In Ansur	إِنْ أَنْصُرْ
If we will help	اگر ہم مدد کریں گے	In Nansur	إِنْ نَنْصُرْ



## تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب ان“

3rd Person Male		غائب مذکر	
If he will be helped	اگر وہ مدد کیا جائے گا	In Yunsar	إِنْ يُنْصَرُ
If they both will be helped	اگر وہ دونوں مدد کیے جائیں گے	In Yunsaraa	إِنْ يُنْصَرَا
If they all will be helped	اگر وہ سب مدد کیے جائیں گے	In Yunsaroo	إِنْ يُنْصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
If she will be helped	اگر وہ مدد کی جائے گی	In Tunsar	إِنْ تُنْصَرُ
If they both will be helped	اگر وہ دونوں مدد کی جائیں گی	In Tunsaraa	إِنْ تُنْصَرَا
If they all will be helped	اگر وہ سب مدد کی جائیں گی	In Yunsarna	إِنْ يُنْصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
If you will be helped	اگر تو مدد کیا جائے گا	In Tunsar	إِنْ تُنْصَرُ
If you both will be helped	اگر تم دونوں مدد کیے جاؤ گے	In tunsaraa	إِنْ تُنْصَرَا
If you all will be helped	اگر تم سب مدد کیے جاؤ گے	In Tunsaroo	إِنْ تُنْصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
If you will be helped	اگر تو مدد کی جائے گی	In Tunsaree	إِنْ تُنْصَرِي
If you both will be helped	اگر تم دونوں مدد کی جاؤ گی	In Tunsaraa	إِنْ تُنْصَرَا
If you all will be helped	اگر تم سب مدد کی جاؤ گی	In Tunsarna	إِنْ تُنْصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
If I will be helped	اگر میں مدد کیا جاؤں گا	In Unsar	إِنْ أُنْصَرُ
If we will be helped	اگر ہم مدد کیے جائیں گے	In Nunsar	إِنْ نُنْصَرُ



## تصريف فعل مضارع "معروف مجزوم ب لم"



3rd Person Male		غائب مذکر	
He didn't help	اس نے مدد نہیں کی	Lam Yansur	لَمْ يَنْصُرْ
They both didn't help	ان دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Yansuraa	لَمْ يَنْصُرَا
They all didn't help	ان سب نے مدد نہیں کی	Lam Yansuroo	لَمْ يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She didn't help	اس نے مدد نہیں کی	Lam Tansur	لَمْ تَنْصُرْ
They both didn't help	ان دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Tansuraa	لَمْ تَنْصُرَا
They all didn't help	ان سب نے مدد نہیں کی	Lam Yansurna	لَمْ يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You didn't help	تو نے مدد نہیں کی	Lam Tansur	لَمْ تَنْصُرْ
You both didn't help	تم دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Tansuraa	لَمْ تَنْصُرَا
You all didn't help	تم سب نے مدد نہیں کی	Lam Tansuroo	لَمْ تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You didn't help	تو نے مدد نہیں کی	Lam Tansuree	لَمْ تَنْصُرِي
You both didn't help	تم دونوں نے مدد نہیں کی	Lam Tansuraa	لَمْ تَنْصُرَا
You all didn't help	تم سب نے مدد نہیں کی	Lam Tansurna	لَمْ تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I didn't help	میں نے مدد نہیں کی	Lam Ansur	لَمْ أَنْصُرْ
We didn't help	ہم نے مدد نہیں کی	Lam Nansur	لَمْ نَنْصُرْ





## تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لم“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He wasn't helped	وہ مدد نہیں کیا گیا	Lam Yunsar	لَمْ يُنصَرَ
They both weren't helped	وہ دونوں مدد نہیں کیے گئے	Lam Yunsaraa	لَمْ يُنصَرَا
They all weren't helped	وہ سب مدد نہیں کیے گئے	Lam Yunsaroo	لَمْ يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She wasn't helped	وہ مدد نہیں کی گئی	Lam Tunsar	لَمْ تُنصَرَ
They both weren't helped	وہ دونوں مدد نہیں کی گئیں	Lam Tunsaraa	لَمْ تُنصَرَا
They all weren't helped	وہ سب مدد نہیں کی گئیں	Lam Yunsarna	لَمْ يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You wasn't helped	تو مدد نہیں کیا گیا	Lam Tunsar	لَمْ تُنصَرَ
You both weren't helped	تم دونوں مدد نہیں کیے گئے	Lam tunsaraa	لَمْ تُنصَرَا
You all weren't helped	تم سب مدد نہیں کیے گئے	Lam Tunsaroo	لَمْ تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You wasn't helped	تو مدد نہیں کی گئی	Lam Tunsaree	لَمْ تُنصَرِي
You both weren't helped	تم دونوں مدد نہیں کی گئیں	Lam Tunsaraa	لَمْ تُنصَرَا
You all weren't helped	تم سب مدد نہیں کی گئیں	Lam Tunsarna	لَمْ تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I wasn't helped	میں مدد نہیں کیا گیا	Lam Unsar	لَمْ أُنصَرَ
We weren't helped	ہم مدد نہیں کیے گئے	Lam Nunsar	لَمْ نُنصَرَ



## تصريف فعل مضارع "معروف مجزوم ب لَمَّا"

3rd Person Male		غائب مذکر	
He didn't help yet	اس نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansur	لَمَّا يَنْصُرُ
They both didn't help yet	ان دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansuraa	لَمَّا يَنْصُرَا
They all didn't help yet	ان سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansuroo	لَمَّا يَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She didn't help yet	اس نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansur	لَمَّا تَنْصُرُ
They both didn't help yet	ان دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuraa	لَمَّا تَنْصُرَا
They all didn't help yet	ان سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Yansurna	لَمَّا يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You didn't help yet	تو نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansur	لَمَّا تَنْصُرُ
You both didn't help yet	تم دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuraa	لَمَّا تَنْصُرَا
You all didn't help yet	تم سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuroo	لَمَّا تَنْصُرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You didn't help yet	تو نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuree	لَمَّا تَنْصُرِي
You both didn't help yet	تم دونوں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansuraa	لَمَّا تَنْصُرَا
You all didn't help yet	تم سب نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Tansurna	لَمَّا تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متكلم مذکر و مؤنث	
I didn't help yet	میں نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Ansur	لَمَّا أَنْصُرُ
We didn't help yet	ہم نے ابھی تک مدد نہیں کی	Lammaa Nansur	لَمَّا نَنْصُرُ



## تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لما“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He wasn't helped yet	وہ ابھی تک مدد نہیں کیا گیا	Lammaa Yunsar	لَمَّا يُنْصَرُ
They both weren't helped yet	وہ دونوں ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Yunsaraa	لَمَّا يُنْصَرَا
They all weren't helped yet	وہ سب ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Yunsaroo	لَمَّا يُنْصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She wasn't helped yet	وہ ابھی تک مدد نہیں کی گئی	Lammaa Tunsar	لَمَّا تُنْصَرُ
They both weren't helped yet	وہ دونوں ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Tunsaraa	لَمَّا تُنْصَرَا
They all weren't helped yet	وہ سب ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Yunsarna	لَمَّا يُنْصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You wasn't helped yet	تو ابھی تک مدد نہیں کیا گیا	Lammaa Tunsar	لَمَّا تُنْصَرُ
You both weren't helped yet	تم دونوں ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa tunsaraa	لَمَّا تُنْصَرَا
You all weren't helped yet	تم سب ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Tunsaroo	لَمَّا تُنْصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You wasn't helped yet	تو ابھی تک مدد نہیں کی گئی	Lammaa Tunsaree	لَمَّا تُنْصَرِي
You both weren't helped yet	تم دونوں ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Tunsaraa	لَمَّا تُنْصَرَا
You all weren't helped yet	تم سب ابھی تک مدد نہیں کی گئیں	Lammaa Tunsarna	لَمَّا تُنْصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I wasn't helped yet	میں ابھی تک مدد نہیں کیا گیا	Lammaa Unsar	لَمَّا أَنْصَرُ
We weren't helped yet	ہم ابھی تک مدد نہیں کیے گئے	Lammaa Nunsar	لَمَّا أَنْصَرُ



## تصریف فعل مضارع ”معروف مجزوم ب لام امر“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He must/should help	چاہیے کہ وہ مدد کرے	Li- Yansur	لَيَنْصُرْ
They must/should help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کریں	Li- Yansuraa	لَيَنْصُرَا
They must/should help	چاہیے کہ وہ سب مدد کریں	Li- Yansuroo	لَيَنْصُرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She must/should help	چاہیے کہ وہ مدد کرے	Li- Tansur	لَتَنْصُرْ
They must/should help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کریں	Li- Tansuraa	لَتَنْصُرَا
They must/should help	چاہیے کہ وہ سب مدد کریں	Li- Yansurna	لَيَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I must help	چاہیے کہ میں مدد کروں	Li- Ansur	لَاَنْصُرْ
We must help	چاہیے کہ ہم سب مدد کریں	Li- Nansur	لِنَنْصُرْ



## تصريف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لام امر“

3rd Person Male

غائب مذکر

He must/should be helped	چاہیے کہ وہ مدد کیا جائے	Li- Yunsar	لِيُنصَرَ
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کیے جائیں	Li- Yunsaraa	لِيُنصَرَا
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد کیے جائیں	Li- Yunsaroo	لِيُنصَرُوا

3rd Person Female

غائب مؤنث

She must/should be helped	چاہیے کہ وہ مدد کی جائے	Li- Tunsar	لِيُنصَرَ
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد کی جائیں	Li- Tunsaraa	لِيُنصَرَا
They must/should be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد کی جائیں	Li- Yunsarna	لِيُنصَرْنَ

1st Person Male / Female

متكلم مذکر و مؤنث

I must help be helped	چاہیے کہ میں مدد کیا جاؤں	Li- Unsar	لَاُنصَرَ
We must help be helped	چاہیے کہ ہم مدد کیے جائیں	Li- Nunsar	لَاُنصَرَ



## تصریف فعل مضارع ”معروف مجزوم ب لام نہی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He shouldn't help	چاہیے کہ وہ مدد نہ کرے	Laa Yansur	لَا يَنْصُرُ
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کریں	Laa Yansuraa	لَا يَنْصُرُوا
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کریں	Laa Yansuroo	لَا يَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She shouldn't help	چاہیے کہ وہ مدد نہ کرے	Laa Tansur	لَا تَنْصُرُ
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کریں	Laa Tansuraa	لَا تَنْصُرُوا
They shouldn't help	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کریں	Laa Yansurna	لَا يَنْصُرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You shouldn't help	تو مدد نہ کر	Laa Tansur	لَا تَنْصُرُ
You shouldn't help	تم دونوں مدد مت کرو	Laa Tansuraa	لَا تَنْصُرُوا
You shouldn't help	تم سب مدد مت کرو	Laa Tansuroo	لَا تَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You shouldn't help	تو مدد نہ کر	Laa Tansuree	لَا تَنْصُرِي
You shouldn't help	تم دونوں مدد مت کرو	Laa Tansuraa	لَا تَنْصُرُوا
You shouldn't help	تم سب مدد مت کرو	Laa Tansurna	لَا تَنْصُرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I shouldn't help	چاہیے کہ میں مدد نہ کروں	Laa Ansur	لَا أَنْصُرُ
We shouldn't help	چاہیے کہ ہم مدد نہ کریں	Laa Nansur	لَا نَنْصُرُ



## تصریف فعل مضارع ”مجهول مجزوم ب لام نہی“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ مدد نہ کیا جائے	Laa Yunsar	لَا يُنصَرُ
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کیے جائیں	Laa Yunsaraa	لَا يُنصَرَا
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کیے جائیں	Laa Yunsaroo	لَا يُنصَرُوا
3rd Person Female		غائب مؤنث	
She shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ مدد نہ کی جائے	Laa Tunsar	لَا تُنصَرُ
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ دونوں مدد نہ کی جائیں	Laa Tunsaraa	لَا تُنصَرَا
They shouldn't be helped	چاہیے کہ وہ سب مدد نہ کی جائیں	Laa Yunsarna	لَا يُنصَرْنَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تو مدد نہ کیا جائے	Laa Tunsar	لَا تُنصَرُ
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم دونوں مدد نہ کیے جاؤ	Laa tunsaraa	لَا تُنصَرَا
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم سب مدد نہ کیے جاؤ	Laa Tunsaroo	لَا تُنصَرُوا
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تو مدد نہ کی جائے	Laa Tunsaree	لَا تُنصَرِي
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم دونوں مدد نہ کیے جاؤ	Laa Tunsaraa	لَا تُنصَرَا
You shouldn't be helped	چاہیے کہ تم سب مدد نہ کیے جاؤ	Laa Tunsarna	لَا تُنصَرْنَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I shouldn't be helped	چاہیے کہ میں مدد نہ کیا جاؤں	Laa Unsar	لَا أُنصَرُ
We shouldn't be helped	چاہیے کہ ہم مدد نہ کیے جائیں	Laa Nunsar	لَا نُنصَرُ



## تصريف فعل مضارع ”معروف ب نون ثقيله“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he will surely help	البتہ وہ ضرور مدد کرے گا	La-Yansuranna	لَيَنْصُرَنَّ
However they both will surely help	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کریں گے	La-Yansuraanni	لَيَنْصُرَانِ
However they all will surely help	البتہ وہ سب ضرور مدد کریں گے	La-Yansurunna	لَيَنْصُرُنَّ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she will surely help	البتہ وہ ضرور مدد کرے گی	La-Tansuranna	لَتَنْصُرَنَّ
However they both will surely help	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کریں گی	La-Tansuraanni	لَتَنْصُرَانِ
However they all will surely help	البتہ وہ سب ضرور مدد کریں گی	La-Yansurnaanni	لَيَنْصُرَنَّ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you will surely help	البتہ تو ضرور مدد کرے گا	La-Tansuranna	لَتَنْصُرَنَّ
However you both will surely help	البتہ تم دونوں ضرور مدد کرو گے	La-Tansuraanni	لَتَنْصُرَانِ
However you all will surely help	البتہ تم سب ضرور مدد کرو گے	La-Tansurunna	لَتَنْصُرُنَّ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you will surely help	البتہ تو ضرور مدد کرے گی	La-Tansurinna	لَتَنْصُرَنَّ
However you both will surely help	البتہ تم دونوں ضرور مدد کرو گی	La-Tansuraanni	لَتَنْصُرَانِ
However you all will surely help	البتہ تم سب ضرور مدد کرو گی	La-Tansurnaanni	لَتَنْصُرَنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I will surely help	البتہ میں ضرور مدد کروں گا	La-Ansuranna	لَاَنْصُرَنَّ
However we will surely help	البتہ ہم ضرور مدد کریں گے	La-Nansuranna	لَنْصُرَنَّ





## تصريف فعل مضارع ”مجهول ب نون ثقیدہ“

3rd Person Male		غائب مذکر	
However he will be surely helped	البتہ وہ ضرور مدد کیا جائے گا	La-Yunsaranna	لَيُنْصَرَنَّ
However they both will be surely helped	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Yunsaraanni	لَيُنْصَرَانِ
However they all will be surely helped	البتہ وہ سب ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Yunsarunna	لَيُنْصَرُنَّ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
However she will be surely helped	البتہ وہ ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsaranna	لَتُنْصَرَنَّ
However they both will be surely helped	البتہ وہ دونوں ضرور مدد کی جائیں گی	La-Tunsaraanni	لَتُنْصَرَانِ
However they all will be surely helped	البتہ وہ سب ضرور مدد کی جائیں گی	La-Yunsarnaanni	لَيُنْصَرَانِ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
However you will be surely helped	البتہ تو ضرور مدد کیا جائے گا	La-Tunsaranna	لَتُنْصَرَنَّ
However you both will be surely helped	البتہ تم دونوں ضرور مدد کیے جاؤ گے	La-Tunsaraanni	لَتُنْصَرَانِ
However you all will be surely helped	البتہ تم سب ضرور مدد کیے جاؤ گے	La-Tunsarunna	لَتُنْصَرُنَّ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
However you will be surely helped	البتہ تو ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsarinna	لَتُنْصَرَنَّ
However you both will be surely helped	البتہ تم دونوں ضرور مدد کی جاؤ گی	La-Tunsaraanni	لَتُنْصَرَانِ
However you all will be surely helped	البتہ تم سب ضرور مدد کی جاؤ گی	La-tunsarnaanni	لَتُنْصَرَانِ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
However I will be surely helped	البتہ میں ضرور مدد کیا جاؤں گا	La-Unsaranna	لَاُنْصَرَنَّ
However we will be surely helped	البتہ ہم سب ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Nunsaranna	لَنُنْصَرَنَّ





تصریف فعل مضارع ”معروف ب نون خفیفہ“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will surely help	وہ ضرور مدد کرے گا	La-Yansuran	لَیَنْصُرُنَّ
They will surely help	وہ سب ضرور مدد کریں گے	La-Yansurun	لَیَنْصُرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
You will surely help	وہ ضرور مدد کرے گی	La-Tansuran	لَتَنْصُرُنَّ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will surely help	تو ضرور مدد کرے گا	La-Tansuran	لَتَنْصُرَنَّ
You will surely help	تم سب ضرور مدد کرو گے	La-Tansurun	لَتَنْصُرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will surely help	تو ضرور مدد کرے گی	La-Tansurin	لَتَنْصُرِنَّ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will surely help	میں ضرور مدد کروں گا	La-Ansuran	لَاَنْصُرَنَّ
We will surely help	ہم ضرور مدد کریں گے	La-Nansuran	لَنْصُرُنَّ



## تصریف فعل مضارع ”مجهول ب نون خفیفہ“

3rd Person Male		غائب مذکر	
He will be surely helped	وہ ضرور مدد کیا جائے گا	La-Yunsaran	لَيُنصَرُونَ
They will be surely helped	وہ سب ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Yunsarun	لَيُنصَرُونَ
3rd Person Female		غائب مؤنث	
You will be surely helped	وہ ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsaran	لَتُنصَرُونَ
2nd Person Male		حاضر مذکر	
You will be surely helped	تو ضرور مدد کیا جائے گا	La-Tunsaran	لَتُنصَرُونَ
You will be surely helped	تم سب ضرور مدد کیے جاؤ گے	La-Tunsarun	لَتُنصَرُونَ
2nd Person Female		حاضر مؤنث	
You will be surely helped	تو ضرور مدد کی جائے گی	La-Tunsarin	لَتُنصَرِينَ
1st Person Male / Female		متکلم مذکر و مؤنث	
I will be surely helped	میں ضرور مدد کیا جاؤں گا	La-Unsaran	لَأُنصَرُونَ
We will be surely helped	ہم ضرور مدد کیے جائیں گے	La-Nunsaran	لَنُنصَرُونَ





II - فعل کی قسمیں

01

II - Fel ki qisme - II - Types of verb

امر اور نہی

Amr aur Nahi, - Imperitive Verb and Negative Imperitive Verb



Command	Amr	امر
<p>تعریف: امر وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے۔</p> <p><b>Tareef:</b> Amr wo fel hai jis ke zariye kisi kaam ke karne ka hukum diya jaaye.</p> <p><b>Definition:</b> Imperitive word is a word which is used to indicate command/order.</p>		<p>إفعلْ</p> <p>If-al</p> <p>kar</p> <p>do it</p>

## امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ

### Amr e Hazir Maroof banane ka qaida

Rules for making direct 2nd person command

مضارع ماضی سے بنا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں (آ، ق، ی، ت) میں سے ایک حرف اس طرح لکھا جاتا ہے:

Muzaar'e maazi se banta hai. Uske banana ka tariqa ye hai ke maazi ke shuru mai (ا، ت، ی، ت) mai se ek huuf iss tarah lagay jata hai:

**Verb (Muzaare) is made from its past (Maazi) by adding one of the four letters before it (ا، ت، ی، ت)**

تین حرفی ماضی کے مضارع سے علامت مضارع کو حذف کر دیں اور شروع میں ہمزہ وصل لگادیں۔

Teen harfi maazi ke muzaare se alaamat muzaare ko hazaf kar de aur shuroo me Hamza wasl laga de. In a three letter past tense, when it becomes present tense then to make an imperative verb we remove the sign of present tense and we add hamzatul wasl

اگر مضارع کا "عین کلمہ" مضموم ہے تو ہمزہ وصل بھی مضموم ہوگا اور اگر "عین کلمہ" مکسور یا مفتوح ہے تو ہمزہ وصل مکسور ہوگا۔

Agar muzarre ka "aen kalmia" mazmoom hai to Hamza vasal bhi mazmoom hoga" aur agar aen kalima maskoor ya maftoo hai to Hamza va sal maskoor hoga.

If the ayn kalima of the present tense verb has pesh then the hamzatul wasl will also have pesh. Moreover if the Ayn kalima of the present tense is either zabar or zer then hamzatul wasl will get only zer and never zabar.



آخری حرف (لام کلمہ) کو جزم ملے گا۔

مثلاً:- نَتَصَرُّعُ انصرُّ (مدد کر) مضارع کا عین کلمہ مضموم ہے اس لئے ہمزہ وصل مضموم آیا ہے۔

تَذْهَبُ تذهبُ (جا) مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہے اس لئے ہمزہ وصل مکسور آیا ہے۔

تَجَلِّسُ سے اجلسُ (بیٹھ) مضارع کا عین کلمہ مکسور ہے اس لئے ہمزہ وصل مکسور آیا ہے۔

### 3. Aakhri harf (laam kalmia) ko jazam milega.

Masalan: (نَصْرُ - نَصْرٌ) muzarre ka ain kalmia mazmoom hai isliye Hamza va sal mazmoom aaya hai.

(تَذْهَبُ - اذْهَبُ) muzarre ka ain kalmia maftooh hai is liye Hamza va sal maskoor aaya hai.

(تَجَلِّسُ - اجلسُ) muzarre ka ain kalmia maskoor hai is liye Hamza va sal maksoor hai

Last letter will get jazam

if 2nd letter of muzare is paish then hamza will also be paish. Last letter will get jazam

if 2nd letter of muzare is zabar then hamza will also be zaire. Last letter will get jazam

if 2nd letter of muzare is zaire then hamza will also be zaire.

اگر علامت مضارع کے بعد والا حرف ساکن نہ ہو تو ہمزہ وصل کی ضرورت نہیں۔ جیسے تعدُّ سے عد (وعدہ کر) ہوگا۔

Agar alamat muzarre ke baad vala huruf saakin na ho to Hamza wasal ki zaroorat nahi, Jaise (تعدُّ - عد) hoga.

If the letter is not saakin after muzare letters then hamza wasal is not required.

نون اعرابی ساقط ہو جائے گا۔ نون ضمیر اپنی حالت پر رہے گا۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ جیسے: تَدْعُوْ سے اُدْعُ (بلا)۔

Noon airabi saakhit ho jayega. Noon zameer apni haalat par rahega. Agar aakhir me harf illat ho to vo saakhit ho jayega. Jaise (تَدْعُوْ - اُدْعُ).

Noon will be deleted. Noon zameer will be in original position. If there is haraf e illat letters in the end then illat letters will be deleted.



## امر غائب و متکلم بنانے کا قاعدہ

### Amr Ghayab va mutakallim banane ka qaida

Rule of making the command tense for 3rd person and 1st person

مضارع معروف کے صیغوں پر "لام امر" (لام مکسور) بڑھا دیا جائے۔

مثلاً: يَذْهَبُ يَذْهَبُ (اس کو جانا چاہیے / چاہیے کہ وہ مدد کرے)  
يَنْصُرُ يَنْصُرُ (اس کو مدد کرنا چاہیے / چاہیے کہ وہ مدد کرے)

Muzaare maroof ke seghon par "laam amr" (laam maksoor) bada diya jaye.

Masalan: (يَذْهَبُ - يَذْهَبُ) (يَنْصُرُ - يَنْصُرُ)

Add Lam on command laam of Zer - Example : (يَذْهَبُ - يَذْهَبُ) (يَنْصُرُ - يَنْصُرُ)

مضارع پر لام امر آنے سے جو صیغے واحد کے ہیں ان کو جزم مل جاتا ہے۔

Muzaare par laam amr aane se jo seeghe vahid ke hai unko jazam mil jata hai.

If Laam(command) comes on present, singular tense will come with jazam

نون اعرابی ساقط ہو جائے گا۔ نون ضمیر اپنی حالت پر رہے گا۔ اگر آخر میں حرف علت ہو تو وہ ساقط ہو جائے گا۔ جیسے: يَدْعُوْهُ يَدْعُوْهُ

Noon airabi saakhit ho jayega. Noon zameer apni haalat par rahega. Agar aakhir me harf illat ho to vo saakhit ho jayega.

Noon will decline. Noon of zameer remains and harfe illat will be deleted.





Conjugation of imperative  
verb and verb of negation

Tasreef fel Amr o  
Nahi

تصريف فعل امر ونهـى

Tasreef Fel Amar   Conjugation of Command   تصريف فعل امر			
Haazir Muzakkar		2nd Person Male   حاضر مذكر	
You do it	Tum karo	تم کرو	إفعلْ
You both do it	Tum dono karo	تم دونوں کرو	إفعلَا
You all do it	Tum sab karo	تم سب کرو	إفعلُوا
Haazir Muannas		2nd Person female   حاضر مؤنث	
You do it	Tum karo	تم کرو	إفعلِيْ
You both do it	Tum dono karo	تم دونوں کرو	إفعلَا
You all do it	Tum sab karo	تم سب کرو	إفعلنَ





Negative Command	Nahi	نہی
<p>تعريف: نہی وہ فعل ہے جس کے ذریعہ کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جائے۔</p> <p><b>Tareef:</b> Nahi wo fel hai jis ke zariye kisi kaam ken a karne ka hokum diya jaye.</p> <p><b>Definition:</b> A verb through which a command of not doing an action is given.</p>		<p>لا تَفْعَلْ</p> <p>La-Taf-al</p> <p>Mat kar</p> <p>don't do it</p>

بنانے کا طریقہ: مضارع کے شروع میں لائے نہی لگا دینے سے نہی بن جاتا ہے۔  
 لائے نہی فعل مضارع میں وہی عمل کرتا ہے جو لم کرتا ہے، یعنی پانچ صیغوں کو جزم کی علامت سکون دیتا ہے اور اگر آخر میں حرف علت ہو تو اسے گرا دیتا ہے۔ سات صیغوں سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، جبکہ دو صیغوں: جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث مخاطب میں کچھ عمل نہیں کرتا۔

**Nahi banaane ka tareeqa:** Muzare' ke shuru me laa-e-nahi laga dene se nahi ban jaata hai. laa-e-nahi fel-e-muzare' me wahi amal karta hai jo "Lam" karta hai, yani paanch segho ko jazam ki alamat-e-sukoon deta hai aur agar aakhir me harf-e-illat ho to use gira deta hai. saat segho se noon-e-e'raabi gira deta hai, jabke do segho: jama muannas ghaeb aur jama muannas mukhatab me kuch amal nahi karta.

#### How to make command of Negation:

The command of Negation is made by prefixing the Laam of Negation to a preset tense verb. The effect of Laam of Negation is similar to the effect of Laam on a present tense verb i.e, it gives sukoon on 5 forms and the weak letter is dropped if it is present at the end of the verb. In 7 forms the Declinable Noon is dropped, but it has no effect on 2 forms i.e, plural of 3rd person feminine and plural of 2nd person feminine.

#### Tasreef fel Nahi | Conjugation of Negation | تصريف فعل نہی

Haazir Muzakkar   2nd Person Male   حاضر مذکر			
You don't do it	Tum Mat karo	تم مت کرو	لَا تَفْعَلْ
You both don't do it	Tum dono Mat karo	تم دونوں مت کرو	لَا تَفْعَلَا
You all don't do it	Tum sab Mat karo	تم سب مت کرو	لَا تَفْعَلُوا
Haazir Muannas   2nd Person female   حاضر مؤنث			
You don't do it	Tum Mat karo	تم مت کرو	لَا تَفْعَلِيْ
You both don't do it	Tum dono Mat karo	تم دونوں مت کرو	لَا تَفْعَلَا
You all don't do it	Tum sab Mat karo	تم سب مت کرو	لَا تَفْعَلْنَ





ابواب ثلثی مجرد و مزید فیہ

01

Abwaabe Sulaasi mujarrad wa mazeed feeh  
Trilateral Verb and Trilateral Derived Verb



ابواب رباعی مجرد

02

Abwaab rubaaee mujarrad - Four Letter Verb



ضَرَبَ يَضْرِبُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۱
نَصَرَ يَنْصُرُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۲
سَمِعَ يَسْمَعُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۳
فَتَحَ يَفْتَحُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۴
كَرَّمَ يَكْرِمُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۵
حَسَبَ يَحْسِبُ	فَعَلَ يَفْعَلُ	۶



<p>نَصَرَ يَنْصُرُ ، نَصْرًا وَنُصْرَةً ، فهو ناصِرٌ ، وهي ناصِرةٌ والجمع : نُصَارٌ ، وَنُصُورٌ وهو وهي نَصِيرٌ والجمع : أَنْصَارٌ ، والمفعول مَنْصُور</p>	<p>نَصَرَ: (فعل)</p>
<p>ذَهَبَ / ذَهَبَ إِلَى / ذَهَبَ بِـ / ذَهَبَ عَلَى / ذَهَبَ عَنْ / ذَهَبَ فِي يَذْهَبُ ، ذَهَابًا وَ ذُهُوبًا ، فهو ذاهِبٌ وَ ذَهُوبٌ ، والمفعول مذهبٌ إليه ، ذَهَبَ ذَهَابًا ، ذُهُوبًا ، مَذْهَبًا</p>	<p>ذَهَبَ: (فعل)</p>
<p>فَتَحَ / فَتَحَ عَلَى يَفْتَحُ ، فَتَحًا ، فهو فاتِحٌ ، والمفعول مَفْتُوحٌ – للمتعدِّي</p>	<p>فَتَحَ: (فعل)</p>
<p>ضَرَبَ / ضَرَبَ إِلَى / ضَرَبَ بِـ / ضَرَبَ عَلَى / ضَرَبَ عَنْ / ضَرَبَ فِي يَضْرِبُ ، ضَرْبًا وَضَرْبَانًا ، فهو ضاربٌ ، والمفعول مضروبٌ – للمتعدِّي</p>	<p>ضَرَبَ: (فعل)</p>
<p>سَمِعَ / سَمِعَ إِلَى / سَمِعَ لـ يَسْمَعُ ، سَمَاعًا وَسَمْعًا ، فهو سامِعٌ وَسَمِيعٌ والجمع : سَمَاعٌ ، وَسَمْعَةٌ وهو سَمَاعٌ ، وهي سامِعَةٌ ، وَسَمَاعَةٌ ، والمفعول مَسْمُوعٌ</p>	<p>سَمِعَ: (فعل)</p>
<p>حَسِبَ يَحْسِبُ وَيَحْسِبُ ، حِسْبَانًا ، فهو أَحْسَبُ ، وهي حِسْبَاءٌ والجمع : حُسْبٌ ، والمفعول مَحْسُوبٌ</p>	<p>حَسِبَ: (فعل)</p>



مضارع مجہول Muzarre majhool Passive present/future	ماضی مجہول Mazi majhool Passive Past tense	اسم مفعول Ism maf-ool Object noun	اسم فاعل Ism fa'el Subject noun	مصدر Masdar noun	امر Amr Imperative tense	مضارع Muzaare Present & future tense	ماضی Maazi Past tense
يُفَعَّلُ	فُعِّلَ	مَفْعُولٌ	مَفْعُولٌ	تَفْعِيلٌ / تَعْيِةٌ	فَعِّلْ	يَفْعَلُ	فَعَّلَ
يُفَاعَلُ	فُوِعِلَ	مَفَاعَلٌ	مَفَاعَلٌ	مَفَاعِلَةٌ / فِعَالٌ	فَاعِلْ	يَفَاعِلُ	فَاعَلَ
يُفَعَّلُ	أَفْعِلَ	مَفْعَلٌ	مَفْعَلٌ	إِفْعَالٌ	أَفْعِلْ	يَفْعِلُ	أَفْعَلَ
يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ	مَتَفَعَّلٌ	مَتَفَعَّلٌ	تَفَعَّلٌ	تَفَعَّلْ	يَتَفَعَّلُ	تَفَعَّلَ
يَتَفَاعَلُ	تَفُوِعِلَ	مَتَفَاعَلٌ	مَتَفَاعَلٌ	تَفَاعِلٌ	تَفَاعَلْ	يَتَفَاعَلُ	تَفَاعَلَ
---	---	---	مَتَفَعَّلٌ	إِنْفِعَالٌ	إِنْفَعِلْ	يَنْفَعِلُ	إِنْفَعَلَ
يَتَفَعَّلُ	أَفْعِلَ	مَفْعَلٌ	مَفْعَلٌ	إِفْعَالٌ	أَفْعِلْ	يَفْعِلُ	أَفْعَلَ
---	---	---	مَفْعَلٌ	إِفْعَالٌ	أَفْعِلْ / أَفْعَلْ	يَفْعَلُ	أَفْعَلَ
يَسْتَفَعَّلُ	اسْتَفَعَّلَ	مَسْتَفَعَّلٌ	مَسْتَفَعَّلٌ	اسْتِفْعَالٌ	اسْتَفَعِّلْ	يَسْتَفَعِّلُ	اسْتَفَعَّلَ
---	---	---	مَسْتَفَعَّلٌ	إِفْعِيَالٌ	إِفْعِيَالْ	يَفْعِيَالُ	إِفْعِيَالًا
Forms of 4 Letter Verb   Abvaab-e-Rubaee mujarrad   ابواب رباعي مجرد							
يُفَعَّلُ	فُعِّلَ	مَفْعَلٌ	مَفْعَلٌ	فَعْلَةٌ	فَعِّلْ	يَفْعَلُ	فَعَّلَ





جملہ فعلیہ

01

Jumla feliya - Verbal sentences



جملہ فعلیہ کی بناوٹ

02

Jumla feliya ki banaawat - Formation of verbal sentences



متعلق جار مجرور / ظرف Mutallikh jar majroor / Zarf Adverb Preposition/conjunction	مفعول اسم / ضمیر Ma'ool Ism / Zameer Object Noun/ Pronoun	فاعل اسم / ضمیر Fa'el Ism / Zameer Doer of action Noun / Pronoun	فعل ماضی / مضارع Fel Maazi / Muzaare verb Past / Present / Future
		النَّاسُ	أَمَنَ
	السَّمَاءَ	اللَّهُ	خَلَقَ
عَلَى الْكُرْسِيِّ		زَيْدٌ	جَلَسَ
إِلَى مَكَّةَ	يَوْمَ الْجُمُعَةِ	حَامِدٌ وَزَيْدٌ	سَافَرَا
	الرِّسَالَةَ	الْبَنَاتُ	كَتَبْنَ
بِالْعَصَا	ضَرْبَةً	زَيْدٌ	ضَرَبَ
بِالْعَصَا		ضَرَبَتْهُ	
بِالْمَالِ		نَصَرَهُ زَيْدٌ	
عَلَى الْمَدْرَسِ		سَلَّمْتُ	
Qurani Misalein   Quranic Examples   قرآنی مثالیں			
	الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا (۳۶:۸۰)	جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ (۵:۹۷)	
	ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ (۲:۲۹)	ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا (۶۶:۱۱)	
	مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ (۱۶:۹۷)	فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا. (۵:۳۱)	
	حَرَمْتُ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ (۴:۲۳)	إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (۱۰۸:۱)	
	نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا (۴۱:۲۹)	وَلَيْنَ خَافٍ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (۵۵:۴۶)	
	يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (۵۱:۱۲)	لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (۶۱:۲)	



## Verbal Sentence | Jumle Fe'liya | جملة فعلية

تعریف: جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جو فعل (ماضی یا مضارع) سے شروع ہو

**Tareef:** Jumle feliya vo jumla hai jo fel (mazi ya muzarr) se shuroo ho

**Definition:** Those sentences which begin with verbs are called verbal sentences.

خلق الله الانسان، يخلق الله الانسان، ما كتب زيد  
الرسالة، لا يكتب زيد الرسالة

## مفاعیلِ خمسہ:

5. مفعول معہ

4. مفعول لہ

3. مفعول فیہ

2. مفعول مطلق

1. مفعول بہ

## مفعول بہ:

وہ اسم منصوب جس پر فاعل کا فعل واقع ہو۔

مثال: "قَرَأْتُ الْكِتَابَ" میں نے کتاب پڑھی۔

وضاحت: اس مثال میں "الْكِتَابَ" مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے کیونکہ اس پر متکلم (فاعل) کے پڑھنے کا عمل واقع ہوا ہے۔

## مفعول مطلق:

وہ مصدر منصوب جو مذکورہ فعل کے ہم لفظ یا ہم معنی ہو اور فعل کے بعد اس کی تاکید یا عدد بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے۔

مثال: "فَرِحْتُ فَرِحًا" میں خوش ہوا، خوش ہونا۔ "قَعَدْتُ جُلُوسًا" میں بیٹھا، بیٹھنا۔

وضاحت: فَرِحًا اور جُلُوسًا مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ فَرِحًا مصدر ہے اور مذکورہ فعل فَرِحْتُ کے ہم لفظ ہے اور جُلُوسًا مصدر

ہے اور قَعَدْتُ کے صرف ہم معنی ہے، اور یہاں دونوں فعل کی تاکید کے لیے ہیں۔





### مفعول فیہ:

وہ اسم جو بتقدیر "فی" (یعنی جس میں فی کو مقدر اور پوشیدہ مانا جاتا ہے) منصوب ہو اور فعل کا وقت یا جگہ بتانے کے لیے ذکر کیا جائے، مفعول فیہ کو ظرف بھی کہتے ہیں۔

مثال: "سَافِرٌ لَّيلاً" اس نے رات کو سفر کیا۔ "مَشَى مِثْلًا" وہ ایک میل چلا۔

وضاحت: لیل اور میل مفعول فیہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں۔ لیل فعل کا وقت اور میل جگہ بتانے کے لیے ذکر ہوا ہے۔

### ظرف کی اقسام:

ظرف یا مفعول فیہ کی دو قسمیں ہیں: 1- ظرفِ زمان، 2- ظرفِ مکان

ظرفِ زمان: وہ اسم ہے جو اس وقت پر دلالت کرے جس میں کام واقع ہوا ہو، جیسے: صمْتُ يَوْمِ الْخَمِيسِ "میں نے جمعرات کے دن روزہ رکھا"۔

ظرفِ مکان: وہ اسم ہے جو اس جگہ پر دلالت کرے جس میں واقع ہوا ہو، جیسے: جَلَسْتُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ "میں درخت کے نیچے بیٹھا"۔

### مفعول لہ:

وہ مصدر جو وقوعِ فعل کا سبب بیان کرنے کے لیے ذکر کیا جائے، اسے مفعول لہ کہتے ہیں۔

مثال: "ضَرَبْتَهُ تَأْدِيبًا" میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔

وضاحت: اس میں تادیب مفعول لہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور یہ بیان کر رہا ہے کہ مار کا سبب ادب سکھانا ہے۔

### مفعول معہ:

وہ اسم منصوب جو "و" کے بعد آئے جو مع کے معنی میں ہو اور اس ذات پر دلالت کرے جس کی معیت میں فعل واقع ہوا ہو۔

مثال: "جَاءَ الْأَمِيرُ وَالْجَلِيشَ" امیر لشکر سمیت آیا۔


وضاحت: اس میں الجیش مفعول معہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ یہ "و" کے بعد ہے جو کہ مع کے معنی میں ہے اور بتاتا ہے کہ امیر کی آمد لشکر

سمیت ہوئی ہے۔



# Shaikh Arshad Basheer Umeri Madani

Founder & Director – AskIslamPedia.com



- ✓ Masha'Allaah 38 years of age as of 2016, born and brought up in Hyderabad, India
- ✓ Hafiz, Memorized entire Qur'an with knowledge of Arabic, English, Urdu, Hindi and Persian
- ✓ Alim from University of Dar-us-Salaam, Umerabad, Tamil Nadu, India
- ✓ Graduated in the field of Hadees-e-Shareef (Taqassus-Fil-Hadees) from the Islamic University in Madinah Tayyibah, Kingdom of Saudi Arabia
- ✓ Contemporary Education: MBA & Pursuing Ph.D (Business Administration) from Switzerland
- ✓ Has Ejaza for Qur'an and Kutub e Sitta (Six Books of Sunnah)
- ✓ Managing Director for International IT Consultancy Company in Dubai
- ✓ Chairman of ABM Corporate Enterprises India
- ✓ International Speaker on Islamic topics with Comparative Religion and Q& A sessions
- ✓ Director iPlus TV(India's First 24/7 Islamic Satellite TV Channel)
- ✓ Advisor of 8 Islamic International Islamic Schools
- ✓ Advisor of Online Islamic University
- ✓ Advisor of Indian Shariah Advisory Council only on Halaal Certification Wing

## Dawah Experience in Media

- Handled over 6000 Shariah related questions Live on ETV Urdu and Zee Salam
- Interview on BBC World Services
- Appeared on TV Channels like Ahad TV (USA), DM Digital (UK), Sharjah TV (UAE), Qatar Radio, Kuwait Radio, NTV Nepal, ABC Nepal, DD, Munsif TV, HMTV, TV9, ETV Urdu, Zee Salam, Zee Punjabi, City Cable Channels
- Delivered 400 Islamic episodes on Zee Salam, the Urdu TV Channel of Zee Telefilms Ltd.
- Interviewed on South African Radio by IPCI, Dawah Center of Shaikh Ahmed Deedat (R)

## Dawah Milestones

Lecture for Officers of Anti Terrorism Squad (ATS) in Mumbai Police Department under the supervision of the then ATS Chief Late Mr. Hemant Karkare, IPS

- ❖ Designed curriculum in Islamic Jurisprudence for Scholars of Indian Madaris
- ❖ Trained about Five Hundred Ulema from India on the rules of Islamic Jurisprudence
- ❖ Study on Indian Share Market and its alternate for Muslims preventing Muslims from indulging in trade with companies dealing in interest.

- ❖ Fundamentals of Islamic Business with comparative study of contemporary Economic system
- ❖ Delivered International Public talks in USA, UK, France, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, United Arab Emirates, Malaysia, Singapore, Nepal
- ❖ Delivered Public talks in almost all major Cities & Towns in the Indian States of Delhi, Telangana, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Goa, Gujarat, Rajasthan, Bihar, West Bengal, Uttar Pradesh, Uttara Khand, Punjab, Haryana, Jammu & Kashmir etc.
- ❖ In close contact with Top Islamic Universities & Top Ulema Kiram of the World
- ❖ Has a wide Network of young upcoming Ulema & Dayees across the World
- ❖ Over 200 Video CDs Answering Allegations of Non-Muslims against Islam

## Syllabus

- Syllabus on Arabic as a second language for Indian Secular Schools from Nursery to 9<sup>th</sup> Class
- Quranic Arabic Grammar for beginners
- 20 Syllabuses for Islamic workshops

## Courses

- 1 Day Courses – Enjoy your Life with Islamic Thinking, Uloomul Qur’an & Uloomul Aqeedah, Islamic History (Lessons), Islamic Healing, Islamic Management Skills in the light of Seerah, Islamic & Contemporary Economics (Islamic Banking), Qawaid-E-Fiquiyyah specially for Scholars of Indian Madaris, Qur’anic Miracle Reasoning with answering allegations on Qur’an, Islamic Rulings for Professionals like Doctors, Advocates, Businessmen Etc.
- 3 Days – Dawah Training Program in English, Urdu & Arabic languages
- 7 Days – Islamic Kids Camp for Children in Urdu & English
- 21 Days – Authentic & Unauthentic Ahadees Segregation for Scholars of Madaris
- 3 Hours – Various Islamic Modules strengthening the basic Islamic Knowledge
- And many other short term training programs and crash courses aimed at building a strong Islamic foundation among the participants

## Prime Projects - In-Sha-Allaah

- AskIslamPedia.com – Free Online Islamic Encyclopedia in 50+ languages
- AskIslamPedia Mobile Apps – Android & IOS
- Islamic School for Orphans
- Islamic Academy



Type here for Unstructured Content

AIP Search

For Structured and Organized Content, Select below language

English	العربية (Arabic)	اردو (Urdu)	हिंदी (Hindi)	తెలుగు (Telugu)
मराठी (Marathi)		ગુજરાતી (Gujarati)	中国的 (Chinese)	
español (Spanish)		français (French)	ಕನ್ನಡ (Kannada)	
Deutsch (German)		বাংলা (Bengali)	தமிழ்(Tamil)	
മലയാളം (Malayalam)		italiano (Italian)	português (Portugal)	
русский (Russian)		čNederlands (Dutch)	Bahasa Melayu (Malaysian)	
অসমীয়া (Assamese)		svenska (Swedish)		














Show more languages



**ASK ISLAM PEDIA**  
GATEWAY FOR ISLAMIC INFORMATION

Free Online Islamic Encyclopedia

**ANDROID**  
APPLICATIONS

 <b>AskIslamPedia</b> AskIslamPedia ★★★★★	 <b>عمرة گائیڈ</b> AskIslamPedia ★★★★★ FREE	 <b>Ask Madani</b> AskIslamPedia ★★★★★ FREE	 <b>Islamic Dictionary</b> AskIslamPedia ★★★★★	 <b>Pillars of Islam &amp; E</b> AskIslamPedia ★★★★★ FREE
 <b>అస్థాం ఈమాన్ మూలా</b> AskIslamPedia ★★★★★ FREE	 <b>حج و عمرہ کی دعائیں</b> AskIslamPedia ★★★★★ FREE	 <b>అల్లాహ్ 99 పేర్లు</b> AskIslamPedia ★★★★★ FREE	 <b>Supplications of Hajj</b> AskIslamPedia ★★★★★ FREE	 <b>99 Names of Allah</b> AskIslamPedia ★★★★★ FREE
 <b>Asma Ul Husna</b> AskIslamPedia ★★★★★	 <b>حج گائیڈ</b> AskIslamPedia ★★★★★ FREE	<p>in-sha-Allah many more are under development</p> <p><b>FREE DOWNLOAD</b> Available on the Android </p>		

in-sha-Allah you can download these apps on  too soon



To Organize Programs and Courses of Shaikh Arshad Basheer Madani

Contact: **Br. Mansoor**, Global Network Head AskIslamPedia.com  
0091 - 93909 93901 - mansoor@askislampedia.com

For Islamic Queries mail your questions to [askmadani@gmail.com](mailto:askmadani@gmail.com)

AND FOR OTHER DETAILS LOG ON TO

[www.AskIslamPedia.com](http://www.AskIslamPedia.com) | [www.ArshadMadani.net](http://www.ArshadMadani.net) | [www.AskMadani.com](http://www.AskMadani.com)

Authorized Distributor

**iDoor Management & Consultancy Services**

[mansoor.dawah@gmail.com](mailto:mansoor.dawah@gmail.com) | 0091 - 93909 93901